

عالم اسلام کو

الجماعة الاثرية كادينية وعلمى ترجمان

۲۲ گے کھلوین  
۲۲ شکر ریف  
۲۲ سر ۲۲

مبارک ہو

ماہنامہ  
اثریہ  
مبارک پور

دسمبر  
2021



## والدین کے حقوق اور احسانات

”قرآن عظیم اور احادیث کی روشنی میں آپ غور کریں، محترمہ ماں نے عہد لا شعوری میں آپ کے ساتھ اپنی ممتا کا مظاہرہ فرمایا، قریب نو ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھا، ولادت کے وقت شدید تکلیفیں برداشت کیں ان کی قربانیوں کے بیان سے قلم عاجز ہے، والد ماجد خون پسینہ بہا کر آپ کے لیے رزق حلال لاتے، حسبِ خواہش کپڑے لاتے اور کھانے پینے کے سامان لاتے رہے بہر کیف والدین کریمین کے بے شمار احسانات ہیں۔ ان کے حقوق کی مکمل ادائیگی اولاد کر دے بظاہر یہ ممکن نہیں۔ ان کی شکر گزاری بھی حد درجہ لازم ہے، قرآن کریم میں یہ دعا مذکور ہے: ”اے میرے رب۔ تو ان دونوں پر رحم کر جیسے ان دونوں نے مجھے چھپن میں پالا۔“ اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کا احسان شناس اور اطاعت گزار بنائے آمین۔“

مبارک حسین مہربانی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بیادگار: حضور حافظِ ملت علامہ شاہ الحاج عبدالعزیز قدس سرہ بانی الجامعۃ الاشرفیہ

الجامعۃ الاشرفیہ کا دینی اور علمی ترجمان



ذیر سرپرستی:

عزیز ملت حضرت علامہ شاہ الحاج عبدالحفیظ صاحب قبلہ  
سربراہ اعلیٰ الجامعۃ الاشرفیہ

جمادی الاولیٰ 1443

دسمبر 2021

جلد: 45.... شماره 12

مجلس مشاورت

مولانا محمد احمد اعظمی مصباحی  
مفتی محمد نظام الدین رضوی مصباحی  
مولانا محمد ادریس بستوی مصباحی  
مولانا محمد عبدالمبین نعمانی مصباحی

مجلس ادارت

مدیر اعلیٰ: مبارک حسین مصباحی  
منیجر: محمد محبوب عزیز  
ترتیب کار: مہتاب پیامی

|                                                                                                 |                                                                             |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| قیمت عام شماره: 30 روپے<br>سالانہ (بذریعہ سادہ ڈاک) 300 روپے<br>سالانہ (بذریعہ رجسٹری) 600 روپے | <b>THE ASHRAFIA MONTHLY</b><br>Mubarakpur. Azamgarh<br>(U.P.) India. 276404 | ترسیل زر و مراسلت کا پتہ<br>دفتر ماہنامہ اشرفیہ، مبارک پور<br>عظیم گڑھ یو۔ پی۔ ۲۷۶۴۰۴ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                      |                                                                                                                |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| سری لنکا، بنگلہ دیش، پاکستان، سالانہ<br>750 روپے<br>دیگر بیرونی ممالک<br>25 \$ امریکی ڈالر 20 £ پونڈ | 05462 کوڈ نمبر<br>250149 دفتر ماہنامہ اشرفیہ<br>250092 الجامعۃ الاشرفیہ<br>23726122 دفتر اشرفیہ بی بی فون/فیکس | چیک اور ڈرافٹ<br>بنام<br>ASHRAFIA MONTHLY<br>بنوائیں |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

ASHRAFIA MONTHLY  
A/c No. 3672174629  
Central Bank Of India  
Branch : Mubarakpur IFSC : CBIN0284532  
اکاؤنٹ میں رقم جمع کرنے کے بعد آفس کے نمبر پر فون کریں  
یا بذریعہ ڈاک مطلع کریں۔ (منیجر)

نوٹ: آپ ماہنامہ اشرفیہ ہر ماہ انٹرنیٹ پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔

Email : ashrafiamonthly@gmail.com  
mubarakmisbahi@gmail.com  
info@aljamiatulashrafia.org

مولانا محمد ادریس مصباحی نے فیسی کمیونڈر گریجس، گورکھ پور سے چھوٹا کر دفتر ماہنامہ اشرفیہ، مبارک پور، عظیم گڑھ سے شائع کیا۔

## نگارشات

|                                    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |              |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3                                  | مبارک حسین مصباحی                                               | حقوق کی ادائیگی اور شکرگزاری                                                                                                                                                                                                   | اداریہ       |
| ----- <b>مطالعہ قرآن</b> -----     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 8                                  | مولانا حبیب اللہ بیگ ازہری                                      | ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے (تیسری قسط)                                                                                                                                                                                   | تفہیم قرآن   |
| ----- <b>مطالعہ حدیث</b> -----     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 13                                 | مولانا محمود علی مشاہدی                                         | رسول اللہ ﷺ کا حلیہ مبارک                                                                                                                                                                                                      | تفہیم حدیث   |
| ----- <b>فقہیات</b> -----          |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 15                                 | مفتی محمد نظام الدین رضوی                                       | کیا فرماتے ہیں علمائے دین؟                                                                                                                                                                                                     | آپ کے مسائل  |
| ----- <b>نظریات</b> -----          |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 17                                 | مولانا ٹیپیل عبدالرحمن مصباحی                                   | مذہبیات کی سائنسی توجیہ                                                                                                                                                                                                        | فکر امروز    |
| ----- <b>اسلامیات</b> -----        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 19                                 | ریاض فردوسی                                                     | مسلمانوں کے زوال کے چند اسباب                                                                                                                                                                                                  | شعاعیں       |
| 22                                 | حافظ محمد ہاشم قادری مصباحی                                     | خوراک کا عالمی دن غریبوں سے بھونڈا مذاق                                                                                                                                                                                        |              |
| ----- <b>معمولات اہل سنت</b> ----- |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 24                                 | مفتی توفیق احسن مصباحی                                          | گیارہویں شریف کے شرعی تقاضے                                                                                                                                                                                                    | ترغیب عمل    |
| ----- <b>صوفیات</b> -----          |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 26                                 | مبارک حسین مصباحی                                               | حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی کی چند تصانیف و ملفوظات (چوتھی قسط)                                                                                                                                                         | بزم تصوف     |
| ----- <b>اساطین تصوف</b> -----     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 32                                 | محمد اعظم مصباحی مبارک پوری                                     | حضرت ابوعلی حسن بصری                                                                                                                                                                                                           | ذکر جمیل     |
| ----- <b>شخصیات</b> -----          |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 34                                 | سید صابر حسین شاہ بخاری قادری                                   | علامہ پیر سید احمد علی شاہ غورغشتوی                                                                                                                                                                                            | انوار حیات   |
| ----- <b>بزم دانش</b> -----        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 36                                 | مفتی محمد ساجد رضا مصباحی / مہتاب پیامی                         | سلسلہ قادریہ کے چند اکابر                                                                                                                                                                                                      | فکر و نظر    |
| ----- <b>ادبیات</b> -----          |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 43                                 | مبارک حسین مصباحی                                               | نور کے ساغر میں حمد و مناجات کی تابشیں (آخری قسط)                                                                                                                                                                              | گوشہ ادب     |
| 49                                 | مبارک حسین مصباحی                                               | اصلاح عوام                                                                                                                                                                                                                     | نقد و نظر    |
| 51                                 | اکثر محمد حسین مشاہد رضوی / ڈاکٹر واحد نظیر / توفیق احسن برکاتی | نعتیں                                                                                                                                                                                                                          | خیابان حرم   |
| ----- <b>مکتوبات</b> -----         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 52                                 |                                                                 | مولانا محمد عرفان قادری / قمر اخلاقی امجدی                                                                                                                                                                                     | صدائے بازگشت |
| ----- <b>سرگرمیاں</b> -----        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 54                                 |                                                                 | وارانسی سے حج پرواز شروع کرنے کا مطالبہ / محدث بریلوی کی علمی خدمات / جامعہ اشرفیہ مبارک پور، ایک نشست میز / مکمل قرآن / دارالعلوم قادریہ چریاکوٹ میں جشن اعلیٰ حضرت و یاد علامہ بدر القادری / تحریک دعوت انسانیت کا اہم اقدام | خبر و خبر    |

## حقوق کی اداگی اور شکر گزاری

مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ (حدیث)

مبارک حسین مصباحی

مومن کی زندگی میں دو قسم کے حقوق ہوتے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے بندوں پر حقوق، ان دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے وہ جب چاہے ذرے کو آفتاب بنا دے اور جب چاہے ایک سیاہ کار اور بدکار انسان کو معاف فرمادے مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے باہمی حقوق کو معاف نہیں فرماتا، ایک بندے کا جو دوسرے بندے پر حق ہوتا ہے حق تو یہ ہے کہ وہ بہر صورت خندہ پیشانی سے اس کا حق ادا کرے اور صاحب حق کا شکریہ بھی ادا کرے۔

### قرض کی اداگی اور قرض خواہ کی شکر گزاری:

ایک بندے نے دوسرے بندے سے ضرورت پر قرض لے لیا تو وعدے کے مطابق اولین فرصت میں ادا کرے اور اس کے قرض دینے کا شکریہ ادا کرے اور اگر کسی خاص وقت کا وعدہ نہیں کیا ہے جب بھی شکر گزاری کے ساتھ جلد سے جلد ادا کرے اور اگر مقروض کی نیت میں فتور آ گیا، استطاعت کے باوجود وقت پر ادا نہیں کرتا یا وعدے پر وعدہ کیے جاتا ہے مگر وہ صرف بے وقوف بنا رہا ہے ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تو عفو و درگزر فرمادیتے ہیں لیکن اگر قرض دینے والا مقروض کو معاف نہیں کرتا تو روز جزا اس کو اس کا حق نیکیوں کی صورت میں دلا یا جائے گا اور اگر اس مقروض کے پاس نیکیاں سرے سے ہیں ہی نہیں تو قرض خواہ کے گناہ مقروض کو دے دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس صورت حال میں اللہ تعالیٰ کی شان کریمہ کے خلاف ہے کہ وہ مقروض کو پروا نہ نجات عطا فرمائے۔

امیر اہل سنت حضرت علامہ شاہ محمد الیاس عطار قادری فرماتے ہیں:

”معاشرے میں دیگر کئی چیزوں کے ساتھ قرض کی واپسی کے معاملے میں بھی بے اعتدالی نظر آتی ہے۔ غیرت مندی اور مروت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس سے قرض لیا ہے اپنے اس محسن کے گھر جلد جا کر شکریہ کے ساتھ قرض ادا کر آتے، مگر آج کل حالت اس کے الٹ ہے۔ ایک تعداد کا حال یہ ہے کہ وقت پر واپس کرنے کی یقین دہانی کرا کے قرض مانگتے ہیں، لیکن جب لوٹانے کی باری آتی ہے تو اداگی پر قادر ہونے کے باوجود قرض خواہ کو دھکے کھلاتے اور مختلف حیلے بہانے کر کے اسے پریشان کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ذہن جلدی قرض لوٹانے کا ہوتا ہی نہیں، انہوں نے 6 مہینے بعد ہی واپس کرنے کا ذہن بنا رکھا ہوتا ہے، لیکن قرض لیتے وقت اس بات کو ظاہر نہیں کرتے بلکہ جھوٹ بول کر چند دنوں کی مہلت پر قرض لیتے، پھر طے شدہ وقت کے پورا ہونے پر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مزید مہلت حاصل کرتے، یوں مہلت پر مہلت لیتے، سامنے والے کو پریشان کرتے اور رُلا رُلا کر اس کے پیسے واپس کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایک بڑی رقم قرض لیتے ہیں اور پھر قرض خواہ کو بلا وجہ توڑ پھوڑ کر یعنی تھوڑی تھوڑی کر کے رقم لوٹاتے ہیں۔ یاد رکھیے! اگر قرض دار قرض ادا کر سکتا ہو تو قرض خواہ کی مرضی کے بغیر اگر گھڑی بھر بھی تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہو گا اور ظالم قرار پائے گا۔ چاہے روزے کی حالت میں ہو یا سو رہا ہو اس کے لیے گناہ لکھا جاتا ہے گا (گویا ہر حال میں گناہ کا میٹر چلتا رہے گا) اور ہر صورت میں اس پر اللہ پاک کی لعنت پڑتی رہے گی۔ اگر اپنا سامان بیچ کر قرض ادا کر سکتا ہے تب بھی کرنا پڑے گا، ایسا نہیں کرے گا تو گناہ گار ہے۔ اگر قرض کے بدلے ایسی چیز دے جو قرض خواہ کو ناپسند ہو تب بھی دینے والا گناہ گار ہو گا اور جب تک اسے راضی نہیں کرے گا اس جرم سے نجات نہیں پائے گا کیوں کہ اس کا یہ فعل کبیرہ گناہوں میں سے ہے مگر لوگ اسے معمولی خیال کرتے ہیں۔ (ظلم کا انجام، ص 16) کچھ لوگ قرض کے نام پر دوسروں کے لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے ہڑپ کر جاتے

ہیں، ابھی تو یہ سب آسان لگ رہا ہو گا لیکن قیامت میں بہت مہنگا پڑ جائے گا۔“

### قرض ادا نہ کرنے پر امام احمد رضا کا فتویٰ:

جناب مرزا عبدالقادر بیگ صاحب بریلی محلہ نواباں ماہ ربیع الآخر 1326ھ کا حسب ذیل سوال آیا: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ زید ایک یا چند اشخاص کے زر نقد کا قرض دار ہے جو اس کی آمدنی ہوتی ہے وہ اس کو بفرغت خرچ کر ڈالتا ہے اور زیادہ دستیاب ہونے پر عمارت بنوانے و تجارت کرنے پر تیار ہو جاتا ہے تقاضہ اور وعدہ ہونے پر بھی اداگی کی فکر نہیں کرتا ہے قرضہ بڑھانے کے خیال میں رہتا ہے، اس عمل پر چند مثالیں ان بزرگان بے نفس کی کہ جو اتفاقیہ جزوی قرضدار رہے ہوں یا کسی مجبوری سے قرضہ کی حالت میں اس دارفانی سے رحلت فرما ہوئے ہوں زید اپنی صفائی پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وعدہ کر لینا میرا کام تھا اور پورا کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ پس قرضہ کو بزرگان دین پر اور وعدہ پر قرضہ کی اداگی کی فکر نہ کرنے کو اللہ تعالیٰ پر منسوب کرنا کیسا ہے؟ اور اگر اسی ٹال مٹول میں قرض خواہ و قرض دار دونوں فوت ہو گئے تو یوم جزا اور روز حساب کیا؟ اور کیونکر اس کا معاملہ طے ہوگا؟ عنہ اللہ۔ جواب تفصیل عطا فرمایا جائے۔

مجدد و مفکر امام احمد رضا محدث بریلوی نے حسب ذیل جواب عنایت فرمایا:

”الجواب: حدیث میں ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

”لئ الو احد یحل عر ضہ“ (صحیح البخاری کتاب فی الاستقراض باب لصاحب الحق مقال الخ، قدیمی کتب خانہ کراچی 323/1)

”و مطلق العنی ظلم“ (صحیح البخاری کتاب فی الاستقراض باب مطلق العنی ظلم، قدیمی کتب خانہ کراچی 323/1)

ہاتھ پیچتے ہوئے کا ادائے دین سے سرتابی کرنا اس کی آبرو کو حلال کر دیتا ہے یعنی اسے برا کہنا اس پر طعن و تشنیع

کرنا جائز ہو جاتا ہے اور غمی کا دیر لگانا ظلم ہے۔

اشباہ والنظائر میں ہے: ”خلف الوعد حرام“۔ وعدہ جھوٹا کرنا حرام ہے۔ (الاشباہ والنظائر کتاب الخطر والاباحۃ الفہن الثانی، ادارۃ

القرآن کراچی 109/2)

حدیث میں ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

أیة المنافق ثلاث اذا احدث کذب واذا وعد اخلف واذا اتمن خان، او كما قال صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم فان الاحادیث فی المعنی کثیرة. (صحیح البخاری کتاب الایمان باب علامۃ المنافق قدیمی کتب خانہ کراچی 10/1)

منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بات کرے جھوٹ کرے، اور جب وعدہ کرے خلاف کرے، اور جب اس کے پاس

امانت رکھی جائے خیانت کرے۔ (یا جیسا کہ آپ نے فرمایا اور اس معنی میں احادیث کثیر ہیں۔ ت)

صورت مستفسرہ میں زید فاسق و فاجر، مرتکب کبائر، ظالم، کذاب، مستحق عذاب ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا القاب اپنے لیے

چاہتا ہے، اگر اس حالت میں مر گیا اور دین لوگوں کا اس پر باقی رہا اس کی نیکیاں ان کے مطالبہ میں دی جائیں گی اور

کیونکر دی جائیں گی تقریباً تین پیسہ دین کے عوض سات سو نمازیں باجماعت کما فی الدر المختار وغیرہ من

معتمدات الاسفار والعیاذ باللہ العزیز الغفار (جیسا کہ در مختار وغیرہ معتمد کتب میں ہے۔ اللہ عزیز غفار کی پناہ)۔ جب

اس کے پاس نیکیاں نہ رہیں گی ان کے گناہ ان کے سر پر رکھے جائیں گے و یقینی فی الثار اور آگ میں پھینک دیا جائے گا، یہ حکم عدل

ہے، اور اللہ تعالیٰ حقوق العباد معاف نہیں کرتا جب تک بندے خود معاف نہ کریں، اور سلف صالحین کے احوال طیبہ کو اپنے ان

مظالم کی سند قرار دینا اور زیادہ وقاحت اور دین متین پر جرات ہے، اس پر فرض ہے کہ اپنے حال پر رحم کرے اور دیون سے پاک ہو،

موت کو دور نہ جانے آگ کا عذاب سہانہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ (فتاویٰ رضویہ، ج: 25، ص: 69)

### والدین کے حقوق اور احسانات:

اسلام ایک پاکیزہ اور مہذب مذہب ہے، اس میں باہمی حقوق اور احسانات کے تذکار ہیں، والدین کریمین، بہنوں، بھائیوں اور والاد کے

حقوق ہیں۔ اعزہ و اقارب، غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کے حقوق ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث میں ان کے تذکار بڑی جامعیت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ سردست ہم صرف والدین کے حقوق اور احسانات کو قرآن عظیم کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾“ (بنی اسرائیل، آیت: 23، 24)

ترجمہ: اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے ”ہوں“ نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا۔ اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھانرہ دلی سے اور عرض کر کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھٹین میں پالا۔

بلاشبہ ایک انسان کی زندگی میں والدین کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے، ماں کی شخصیت بڑی مقدس اور محترم ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے حضرت معاویہ بن جاہم سے مروی ہے کہ حضرت جاہم بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! میں نے غزوہ کا ارادہ کیا ہے، آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں۔ آقا ﷺ نے ارشاد فرمایا: کیا آپ کی والدہ ہیں؟ میں نے کہا جی حضور ہیں۔ ارشاد رسول کریم ہوا، آپ ان کی خدمت میں لگ جاؤ کیوں کہ ”فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا“ کہ جنت ان کے قدم کے نیچے ہے۔ (مشکوٰۃ، ص: 421، کتاب الآداب، باب البر والصلیۃ، مجلس برکات، مبارک پور، احمد، نسائی اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا۔

اسی حدیث کو حضرت طبرانی نے اسنادِ جید سے روایت کیا، ان کے الفاظ یہ ہیں:

حضرت جاہم رضی اللہ عنہ نے روایت فرمایا: ”میں بارگاہ رسول ﷺ میں جہاد کرنے کے لیے مشورہ کرنے کے لیے حاضر ہوا، آقا ﷺ نے دریافت فرمایا: کیا آپ کے والدین ہیں۔ میں نے عرض کیا: جی حضور ہیں۔ تو آپ نے فرمایا: ان کی خدمت کرو“ ”فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَرْجُلِهِمَا“ کیوں جنت والدین کے قدموں کے نیچے ہے۔“ (مرقاۃ المفاتیح، ج: 9، ص: 157، 158، کتاب الآداب، باب البر والصلیۃ، دار الکتب العلمیۃ، بیروت، لبنان)

”قرآن عظیم اور احادیث کی روشنی میں آپ غور کریں، محترمہ ماں نے عہدِ لاشعوری میں آپ کے ساتھ اپنی متناکام مظاہرہ فرمایا، قریب نو ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھا، ولادت کے وقت شدید تکلیفیں برداشت کیں ان کی قربانیوں کے بیان سے قلم عاجز ہے، والد ماجد خون پسینہ بہا کر آپ کے لیے رزق حلال لاتے، حسبِ خواہش کپڑے لاتے اور کھانے پینے کے سامان لاتے رہے بہر کیف والدین کریمین کے بے شمار احسانات ہیں۔ ان کے حقوق کی مکمل ادائیگی اولاد کر دے بظاہر یہ ممکن نہیں۔ ان کی شکرگزاری بھی حد درجہ لازم ہے، قرآن کریم میں یہ دعا مذکور ہے: ”اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسے ان دونوں نے مجھے چھٹین میں پالا۔“ اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کا احسان شناس اور اطاعت گزار بنائے آمین۔“

اب ہمیں یاد آرہے ہیں عارف باللہ حضرت بایزید بسطامی [وصال: 15 شعبان 231ھ]۔ آپ نے اپنے ایک مرید کو رخصت کرتے وقت نصیحت فرمائی ”اگر کوئی احسان کرے تو خدا کا شکر ادا کرنا اور پھر محسن کا، کیوں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس کے دل کو مہربان کیا ہے۔“ (انوار الاولیاء کامل، ص: 69)

### بندوں پر اللہ تعالیٰ کے احسانات اور حقوق:

اب ہم تحریر کے دوسرے رخ حقوق اللہ کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بے شمار احسانات فرمائے ہیں، تمام حقوق کی تفصیل یہاں ممکن نہیں، آپ صرف انسانی وجود ہی کو دیکھ لیجیے، احسن الخالقین نے انسان کو احسن تقویم کا شاہکار بنایا، دل، دماغ، آنکھ، کان، ناک، ہاتھ اور پیر بنائے، سوچنے سمجھنے کی قوت عطا فرمائی، علم و حکمت، زہد و تقویٰ اور کاروبار حیات کی توانائیاں عطا فرمائیں، اچھے سے اچھا کام بھی کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی، نماز، روزہ، حج، عمرہ، صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ دینے کی لیاقت سے سرفراز فرمایا، اچھے اور رحم دل ماں باپ عطا فرمائے، بہنوں، بھائیوں اور رشتہ داروں سے سرفراز فرمایا، دوست احباب اور دیگر متعلقین سے مالا مال فرمایا، کھانے پینے، رہنے سہنے کی ہزاروں نعمتیں عطا

فرماتا رہتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مذہب اسلام سے نوازا اور مسلک حق اہلسنت وجماعت کی سرفرازی عطا فرمائی۔ امتیازی مقام یہ عطا فرمایا کہ نبی آخر الزماں ﷺ کی امت میں پیدا فرمایا، عشق رسول ﷺ کی بے پایاں دولت بھی عطا فرمائی، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عقیدت و محبت سے سرفراز فرمایا، سلاسل تصوف میں لاکھوں اولیا، انوثا، ابدال کی حیرت انگیز وارفتگی سے نوازا۔ ان چند نعمتوں کا ہم نے ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی ورنہ تفصیلات کے لیے نہ ہمیں معلومات اور نہ سلیقے سے لکھنے کی صلاحیت۔

شکر کی حقیقت نعمت کا تصور اور اس کا اظہار ہے، جب کہ ناشکری نعمت کو بھول جانا اور اس کو چھپانا ہے۔ “تفسیر صراط الجنان میں ہے: ”شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان و نعمت کی وجہ سے زبان، دل یا اعضا کے ساتھ اس کی تعظیم کرنا۔“

خوشحالی میں شکر کرنے والا شکر ہے جب کہ مصیبت میں شکر کرنے والا شکور ہے۔ عطا (یعنی دینے) پر شکر کرنے والا شاکر ہے جب کہ منع (یعنی نہ دینے) پر شکر کرنے والا شکور ہے۔

### قرآن عظیم سے استدلال:

اللہ عزوجل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿۷۶﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرًا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَأِنَّ اللَّهَ لَعَنِيَّ حَمِيدٌ ﴿۷۷﴾ (سورہ ابراہیم، آیت: 7، 8)

ترجمہ: اور یاد کرو جب تمہارے رب نے سنا دیا کہ اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا اور اگر ناشکری کرو تو میرا

عذاب سخت ہے اور موسیٰ نے کہا اگر تم اور زمین میں جتنے ہیں سب کافر ہو جاؤ تو بیشک اللہ بے پروا سب خوبیوں والا ہے۔

صدر الافاضل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں:

”اس آیت سے معلوم ہوا کہ شکر سے نعمت زیادہ ہوتی ہے۔ شکر کی اصل یہ ہے کہ آدمی نعمت کا تصور اور اس کا اظہار کرے اور حقیقت شکر یہ ہے کہ منعم کی نعمت کا اس کی تعظیم کے ساتھ اعتراف کرے اور نفس کو اس کا فخر گرنائے۔ یہاں ایک باریکی ہے وہ یہ کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے طرح طرح کے فضل و کرم و احسان کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے شکر میں مشغول ہوتا ہے اس سے نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اور بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ مقام بہت برتر ہے اور اس سے اعلیٰ مقام یہ ہے کہ منعم کی محبت یہاں تک غالب ہو کہ قلب کو نعمتوں کی طرف التفات باقی نہ رہے، یہ مقام صدیقیوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے۔“

### چار احادیث سے روشن دلائل:

- (1) حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جسے شکر کرنے کی توفیق ملی وہ نعمت کی زیادتی سے محروم نہ ہو گا کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ”لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ“ یعنی اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ جسے توبہ کرنے کی توفیق عطا ہوئی وہ توبہ کی قبولیت سے محروم نہ ہو گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ”وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ“ یعنی اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے۔ (در منثور، ابراہیم، تحت الآیہ: 7، 5/9)
- (2) حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو تھوڑی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتا اور جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرنا شکر ہے اور انہیں بیان نہ کرنا ناشکری ہے۔“

(شعب الایمان، الثانی والستون من شعب الایمان۔۔۔ الخ، فصل فی الکفاۃ بالصالح، 516/6، الحدیث: 9119)

- (3) حضرت حسن رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو نعمت عطا فرماتا ہے تو ان سے شکر ادا کرنے کا مطالبہ فرماتا ہے، جب وہ شکر کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی نعمت کو زیادہ کرنے پر قادر ہے اور جب وہ ناشکری کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب

دینے پر قادر ہے اور وہ ان کی نعمت کو ان پر عذاب بنا دیتا ہے۔ (رسائل ابن دنیا، کتاب الشکر للہ عزوجل، 484/1، الحدیث: 62)

(4) سنن ابوداؤد میں ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما کو ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگنے کی وصیت فرمائی:

”اللَّهُمَّ اعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ“ یعنی اے اللہ! عزوجل، تو اپنے ذکر، اپنے شکر اور اچھے طریقے سے اپنی عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ (ابوداؤد، کتاب الوتر، باب فی الاستغفار، 123/2، الحدیث: 1522)

### پہلی حدیث کی توضیح:

پہلی حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: ”لَيْسَ شُكْرُكُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ“ تم میرا شکر ادا کرو تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ جس کو چاہے اور جتنا چاہے عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی منعم حقیقی ہے۔ ارشاد رسول کریم ﷺ ہے: ”وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يَعْطِي“ (بخاری شریف) آقا فرماتے ہیں: اور میں بس تقسیم کرتا ہوں دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ امام احمد رضا محدث بریلوی نے بڑی دلکش ترجمانی فرمائی ہے۔

دینے والا ہے سچا ہمارا نبی  
کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے

دوسرا بیان توبہ کرنے والوں کا ہے۔ یہ بھی قرآن عظیم کی آیت کریمہ ”وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ“ سے واضح ہے۔ دعاء توبہ، استغفار، رونا، گڑگڑانا، یہ سب عبادتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ سب بڑی محبوب ہیں، جن پر کریم کا کرم زیادہ ہوتا ہے ان کا رونا تڑپنا اور گریہ و زاری کرنا اللہ تعالیٰ کو حودر جہ پسند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے نہ دولت و اقتدار مانگتے ہیں اور نہ عیش و عشرت، نہ قبر و حشر کی آسانی چاہتے ہیں اور نہ جنت کی بہاریں، ان کا مقصود تو صرف اپنے خالق جل و علا کی خوشنودی اور اس کے پیارے رسول ﷺ کی رضا ہوتی ہے۔ عہد صحابہ سے لے کر آج تک اس کے محبوب بندوں کا رجحان یہی رہا ہے۔ کسی بندہ خدا نے کیا خوب کہا ہے۔

جنت میں بھیج دے یا جہنم میں ڈال دے  
جلوہ دکھا کے تو مری حسرت نکال دے

### دوسری حدیث کی توضیح:

دوسری حدیث پاک میں بھی تین بنیادی باتیں ہیں: جو تھوڑی نعمتوں پر شکر گزاری نہیں کرتا وہ زیادہ نعمتوں پر بھی خداے بزرگ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ بظاہر نقطہ نظر انتہائی مختصر ہے مگر سچ یہ ہے کہ جو ام الکلم والے پیغمبر ﷺ نے اس میں معافی کے بے شمار خزانے بھردیے ہیں۔ اگر امثال اور علمی نکات پر گفتگو کی جائے تو قارئین مسرور اور بے خود ہو جائیں۔

اللہ تعالیٰ حقیقی منعم ہے، وہ اپنے احسانات شکر گزاری کے بغیر بھی بڑھا سکتا ہے اور وہ رحم الراحمین ہے توبہ بندہ شکر ادا نہ کرے جب بھی معاف فرما سکتا ہے، اور دنیا میں بھی عفو و درگزر فرماتا ہی رہتا ہے سچ اور حق یہ ہے کہ اگر میدان محشر میں میزان عدل پر ہم جیسے گنہگاروں کے اعمال کا وزن کیا جائے تو ہمارا اولین ٹھکانہ جہنم ہی ہو، ہاں مگر وہ کریم ہے، رؤف ہے اور رحیم ہے اور ہم سب مومنوں کے آقا اور داتا رحمۃ للعالمین اور شفیع المدینین ہیں۔ شفاعت کبریٰ کا مقدس تاج آپ کے سر اقتدس پر درخشاں ہوگا، آپ کو مقام محمود عطا ہوگا، آپ پل صراط اور میزان عدل پر غم خوار امت ہوں گے۔ امت میدان محشر میں پریشان ہوگی، انبیاء کرام کی بارگاہوں میں مدد طلب کرنے کے لیے جائے گی مگر ان انبیاء کرام کی زبانوں پر اذہبوا الی غیری ہوگا۔ مولانا حسن رضا بریلوی نے کیا خوب ترجمانی کی ہے۔

کہیں گے اور نبی اذہبوا الی غیری  
مرے حضور کے لب پر آنا لہا ہوگا

سرکار مفتی عظیم ہند نے شفاعت مصطفیٰ ﷺ کی ترجمانی کا حق ادا کر دیا، فرماتے ہیں۔

میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا  
میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا

ایک اہم بات یہ ہے کہ جو بندوں کا شکر یہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ پہلے تو آپ حدیث پاک میں تقدیم و تاخیر پر غور فرمائیں: ”من لا يشكر الناس لا يشكر الله“ ہے کہ مخلوق کا ذکر خالق و مالک سے پہلے ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بندوں کا شکر یہ ادا کرنا



بلاشبہ بارگاہِ الہی کی شکرگزاری سے مقدم ہے، کیوں کہ ایک انسان اگر بندوں کے احسانات کا ادب کے ساتھ شکر یہ ادا نہیں کرتا، یا حقوق العباد میں کوتاہی برتتا ہے تو جب تک محسن یا صاحبِ حق معاف نہیں کرتا وہ یقیناً اسے اپنی گرفت میں لے لے گا۔ اور اس کے عوض قرض خواہ کے مراتب بلند ہوں گے اور احسان ناشناس اور حق ادا نہ کرنے والوں کی نیکیاں قرض خواہ کو دے دی جائیں گی۔

\* تیسری خاص بات یہ ہے کہ بندہ مومن اگر اپنے خالق، مالک اور محسنِ حقیقی کا ذکر خیر کرتا ہے، زبان سے ہو یا قلم سے، درس و تدریس ہو یا دعوت و تبلیغ سے، مدارس، مساجد اور خانقاہوں کی خدمات سے ہو یا اپنے مال و زر سے، بہر حال تذکار بھی احسان شناسی اور شکرگزاری کا اہم ذریعہ ہیں۔ ہاں جو کم نصیب اللہ تعالیٰ کے ذکر خیر سے محروم ہیں، ناشکری کا یہ انداز انتہائی فنیج اور بدترین ہے۔

### تیسری حدیث کی توضیح:

تیسری حدیث شریف میں خاص نکتہ یہ ہے کہ ناشکر گزار بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب میں مبتلا فرما دیتا ہے، بلکہ بعض اوقات انہیں نعمتوں کو ان کے لیے وبال بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ناشکری کی قباحتوں اور دردناک عذابوں سے محفوظ رکھے۔

### چوتھی حدیث کی توضیح:

چوتھی حدیث میں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جہاں رضی اللہ عنہما نے ہر نماز میں یہ دعا مانگنے کی وصیت فرمائی۔ ”اے اللہ تو اپنے ذکر، شکر اور اچھے طریقے سے اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما“۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں ذکر خدا کی توفیق مانگنے کا حکم دیا ہے آپ تاریخ اسلام میں صوفیائے کاملین اور علمائے ربانیین کی زندگیوں کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہو گا کہ وہ سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے مسلسل ذکر و فکر میں مصروف رہتے۔ ایک بندہ مومن اگر سنت کے مطابق با وضو سو جائے اور صبح کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے بیدار ہو جائے تو اس کے سونے کا ہر سانس عبادت میں لکھا جائے گا۔ حاصل یہ کہ ایک بندہ مومن شریعت کے دائرے میں جو بھی کرے گا وہ سب عبادت ہو گا۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے: ”إنما الأعمال بالنیات“ (بخاری شریف) ”اعمال کا دور و مدار نیتوں پر ہے“، اگر نیت صالح ہے تو وہ عمل بھی صالح اور عبادت ہے۔ ایک بندہ مومن کی یہی شان بندگی ہے۔ ارشاد الہی ہے:

”وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ“ (سورۃ زمر: 56)

اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔

دوسری دعا شکرگزاری کی اور تیسری دعا حسن عبادت کی۔ ہم سب کو اللہ کریم ذکر، شکر اور حسن عبادت کی توفیق سے سرفراز فرمائے۔ آمین۔ ہم دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ ہم سب کو شکرگزاری کے ساتھ حقوق العباد ادا کرنے اور اظہارِ تشکر کے ساتھ اور حقوق اللہ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ ممکن ہے ایک بندے کے دوسرے بندے پر احسانات ہوں۔ حسن معاشرت یہی ہے کہ ایک بندہ ضرورت پر دوسرے بندے کے کام آئے، باہم ضرورتوں کی تکمیل سعادت مندی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ صاف دل سے خوشگوار کی کے ساتھ ان کے احسانات کا بدلہ چکائیں۔ بروزِ حشر جب نیکیوں کو اصحابِ حقوق کو دیا جائے گا تب احساس ہو گا کہ ہم نے حقوق ادا کر دیے ہوتے تو اس سے ہزار گنا بہتر تھا۔ ہاں مگر اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول یقیناً ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ”شفاعتی لاهل الکبائر من أمتی“ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے وہ اپنے بندوں سے ستر ماؤں کی محبتوں سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی کا جذبہ شوق عطا فرمائے۔ حسن معاشرت، احسان و کرم اور حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ آمین۔

فصیل شکر میں آ، صبر کے حصار میں آ  
جہاں گزر نہیں غم کا اسی دیار میں آ

\*\*\*\*\*

## ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے

مولانا محمد حبیب اللہ بیگ ازہری

واقعہ یہ ہے کہ آل سلیمان کے نامور فرزند حضرت عمران کی بیوی حنہ کو اخیر عمر میں استنقار ہوا، تو آپ نے نذرمانی کہ میں اپنے بچے کو اللہ کی عبادت اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن اللہ کی مرضی سے آپ کو بیٹی ہوئی تو آپ نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا، اور انھیں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ حضرت مریم کی کفالت کا تھا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے آپ کو اپنی کفالت میں رکھا اور سن شعور کو پہنچنے کے بعد ان کی عبادت و ریاضت کے لیے ایک گوشہ متعین کر دیا، جہاں آپ عبادت اور ذکر الہی میں مصروف رہا کرتی تھیں، حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کی خبر گیری کے لیے جاتے تو ان کے پاس بے موسم کے پھل دیکھا کرتے تھے، ایک دفعہ آپ نے حضرت مریم سے پوچھا کہ بند کرے میں بے موسم کے پھل آتے کہاں سے ہیں؟ تو حضرت مریم نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔

بے موسم کے پھل دیکھنے کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ جو رب بے موسم کا پھل دینے پر قادر ہے وہ میری بانجھ بیوی کو صحت مند کرنے اور مجھے پیرانہ سالی میں اولاد عطا کرنے پر بھی قادر ہے، تو اسی وقت انھوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں دست سوال پھیلا کر کہا:

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿۳۸﴾ [سورہ آل عمران: 38]

اے میرے رب! تو مجھے اپنی طرف سے نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا قبول فرمانے والا ہے۔

اللہ نے آپ کی دعاسن لی اور آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا، اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب آپ محراب میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے تو فرشتہ حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ آپ کو بیٹی کی بشارت سناتا ہے، جو عیسیٰ کی تصدیق کرے گا، سردار ہوگا، عورتوں سے دور ہوگا، نبی ہوگا اور نیک ہوگا۔ اس پر حضرت زکریا علیہ السلام کی خوشیوں کی انتہا نہ رہی،

مزید فرمایا: وَ لَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا ۗ يُجِبَالٌ أَوْ يَمِينًا مَعَهُ وَ الطَّيْرَ ۗ [سورہ سبأ: 10] ہم نے داؤد کو اپنا فضل عطا کیا، اور کہا: اے پہاڑ اور پرندو! داؤد کے ساتھ تسبیح بیان کرو۔

اسی کے مثل ایک اور مقام پر فرمایا:

وَ اذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْاٰیٰتِ ۗ اِنَّكَ اَوَّابٌ ﴿۱۹﴾ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ ۙ يُسَبِّحُنَ بِالْحَمْدِ ۗ وَ الْاَشْرَاقَ ﴿۲۰﴾ وَ الطَّيْرَ مَحْشُورًا ﴿۲۱﴾ كُلٌّ لِّلَّهِ اَوَّابٌ [سورہ ص: 18-19]

اور ہمارے طاقت ور بندے داؤد کو یاد کرو، بے شک وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا بندہ ہے، بے شک ہم نے پہاڑوں کو اس کے لیے مسخر کر دیا، وہ صبح و شام اس کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ہم نے جمع شدہ پرندے بھی اس کے لیے مسخر کر دیے، سب اس کے تابع فرمان ہیں۔

ان تمام آیات کا خلاصہ یہ کہ اللہ رب العزت نے پہاڑوں اور پرندوں کو اس بات پر مامور کر دیا تھا کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کریں، اسی لیے جب آپ تسبیح کرتے تو صرف جن وانس ہی نہیں بلکہ جملہ حیوانات و بہائم اور سارے نباتات و جمادات آپ کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کی تسبیح میں مصروف ہو جاتے، اور اسی کی عظمت و کبریائی بیان کرتے۔

### حضرت زکریا علیہ السلام کی تسبیح:

حضرت زکریا علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، آپ کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے قریب تر ہے، قرآن کریم میں آپ کا نام سات مرتبہ آیا ہے، سورہ آل عمران، سورہ مریم اور سورہ انبیاء میں آپ کے بعض احوال قدرے تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، سورہ آل عمران کے مطابق کے آپ پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جس میں آپ کو عام گفتگو پر قدرت حاصل نہیں تھی، اس وقت آپ کی زبان مبارک تسبیح و تہلیل کے لیے خاص کر دی گئی تھی، اور آپ اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف رہا کرتے تھے۔

نے آپ کو بغیر باپ کی وساطت کے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے پیدا کیا، اور آپ کو اپنی نشانی قرار دیا، آپ کو کلمۃ اللہ اور روح اللہ جیسے گراں قدر القاب سے نوازا، اور آپ کو دنیا و آخرت میں وجاہت عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو مختلف معجزے عطا فرمائے، اور بنی اسرائیل کی جانب رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔

دیگر انبیاء و مرسلین کی طرح آپ نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، اور انھیں اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے منع فرمایا، لیکن آپ کے بعد آپ کے ماننے والوں نے درس توحید کو چھوڑ کر تثلیث کا عقیدہ وضع کر لیا، آپ کو اور آپ کی ماں کو الوہیت کا درجہ دے دیا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا حصہ قرار دے دیا، قرآن کریم میں ہے کہ قیامت کے دن جب ان کا معاملہ اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اللہ رب العزت شرک کا ارتکاب کرنے والے عیسائیوں کی توبیخ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا تم نے اپنی قوم کو یہ دعوت دی تھی کہ اللہ کو چھوڑ کر تمہیں اور تمہاری ماں کو خدا بنا لیا جائے اور تم دونوں کی عبادت کی جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے اللہ تیرے لیے شرک سے پاکی ہے، اور تیری شان اس سے فزون تر ہے کہ تو اپنے کسی بندے کو عقیدہ توحید والوہیت کی تبلیغ پر مامور کرے، اور وہ تیرے ساتھ شرک کی سازش رہے، تیرے لیے تسبیح و تقدیس ہے، تیرے لیے عظمت و کبریائی ہے، اور تیرے لیے ہر قسم کے شرک و مماثلت اور حلول و اتحاد سے پاکی ہے، قرآن کریم نے اس پورے واقعے کو درج ذیل آیات میں بیان فرمایا ہے:

وَ إِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعْقِبِي ابْنَ مَرْيَمَ ؕ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّيَ الْهَيْدِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ؕ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ ؕ إِنَّ كُذِّبْتُ فَلَنْتَهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ؕ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ؕ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

[سورہ مائدہ: 116]

اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ پوچھے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم! کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے بجائے مجھے اور میری ماں کو وہ خدا بنا لو، تو وہ کہیں گے کہ تیرے لیے شرک سے پاکی ہے، میرے لیے جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں، اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو ضرور جانتا، جو میرے دل میں ہے تو وہ جانتا ہے، لیکن میں جو تیرے علم میں

آپ نے فرط حیرت سے پوچھا کہ مجھے اولاد کیوں کر ہو سکتی ہے جب کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے؟ تو فرشتے نے کہا کہ یہ اللہ کے لیے انتہائی آسان ہے، کیوں کہ جو رب اپنے بندے کو عدم سے وجود میں لانے پر قادر ہے وہ آپ کو اس عمر میں اولاد عطا کرنے پر بھی قادر ہے، اس کے آگے قرآن کریم میں ہے:

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۗ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْطًا ۖ وَ اذْكُرْ ذَرْبَكَ كَثِيرًا ۖ وَ سَتَبِخَ بِالْعَشِيِّ وَ الْإِبْكَارِ ۗ [سورہ آل عمران: 41]

یعنی زکریا نے اپنے رب سے دعا کہ خدایا اس کی کوئی علامت عطا کر دے، اللہ نے فرمایا: تمہارے پاس اس کی علامت یہ ہوگی کہ تم تین دن تک صرف اشارے سے بات کر سکو گے، (اس دوران) اپنے رب کا خوب ذکر کرو، اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔

اس ارشاد کے مطابق جب حضرت حنہ کو استقرار ہوا تو حضرت زکریا علیہ السلام کی زبان مبارک بند ہو گئی، عام گفتگو پر قدرت ختم ہو گئی، اور آپ کے لبہائے مبارک سے حمد باری، ذکر الہی اور کلمات تسبیح کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں سنی گئی، آپ مسلسل تین دن اور رات اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اسی کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہے، اور اسی کی یاد میں مصروف رہے، اور جب اپنی محراب عبادت سے باہر تشریف لائے تو اپنی قوم سے مخاطب ہوئے، اور اشارے کی زبان میں ان کو تسبیح اور نماز کی دعوت دی، فرمایا:

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. [سورہ مريم: 11]

تو زکریا محراب سے باہر اپنی قوم کی طرف آیا، اور ان کو اشارہ سے کہا کہ صبح و شام اپنے رب کی پاکی بیان کرو۔

ان آیات میں غور کریں کہ اللہ نے آپ کو کیسی عظیم نشانی عطا فرمائی، جو بیک وقت نشانی بھی تھی اور تسبیح بھی، اس نشانی کی بدولت آپ کو بھرپور حمد و ثنا کا موقع ملا، اور ولادت کی خوشی کے ساتھ ساتھ تسبیح کی لذتیں بھی عطا ہوئیں، اور آپ نے زبانی رکاوٹ کے باوجود اپنی قوم میں تبلیغ کی، اور ان سے فرمایا کہ جس نے زبان عطا کی اس کی تسبیح کرو، اور جس نے زندگی عطا کی اس کی بندگی میں کوتاہی نہ کرو۔

### حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تسبیح:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ

حمد و ثنا کا حکم دیا، مطلق تسبیح کے مقابلے میں ایسی آیات کی تعداد زیادہ ہے جن میں تسبیح کے ساتھ حمد باری کا بھی حکم ہے، کیوں کہ کامل تعریف کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک فضائل و کمالات سے متصف ہونا، دوسرے عیوب و نقائص سے پاک ہونا، تسبیح میں عیوب سے پاک ہونے کا تو ذکر ہے لیکن فضائل سے متصف ہونے کا ذکر نہیں ہے، اسی لیے قرآن کریم نے تسبیح کے ساتھ ساتھ حمد و ثنا کا بھی حکم دیا تاکہ علی وجہ الکمال اللہ وحدہ لا شریک کی تعریف ہو سکے، بہر کیف سورہ حجر، سورہ طہ، سورہ فرقان، سورہ غافر، سورہ ق، سورہ طور، سورہ نصر اور سورہ دہر میں آپ کو تسبیح کے ساتھ حمد کا حکم دیا گیا، مثلاً سورہ نصر میں فرمایا: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ۔ یعنی حمد کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح اور پاکی بیان کرو۔

تسبیح کے ساتھ حمد الہی کی مکمل صورتیں کیا ہو سکتی ہیں اسے ہم نے اپنے مقالے کے شروع میں ”تسبیح کے صیغے“ کے عنوان سے بیان کیا ہے، اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں مختلف کلمات تسبیح کے فضائل بھی بیان کیے ہیں۔

(3) - مختلف اوقات میں تسبیح: اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب پاک ﷺ کو مختلف اوقات میں تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا، بطور خاص نماز کے لیے کھڑے ہونے کے وقت، نماز سے فارغ ہونے کے بعد، رات کے مختلف حصوں میں اور فجر کے وقت تسبیح کا حکم دیا ہے، اسی طرح طلوع و غروب کی وقت تسبیح کی تاکید ہے، جیسا کہ ہم نے اپنے اس مقالے کے شروع میں ”تسبیح کے اوقات“ کے ضمن میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔

(4) - تسبیح کے ساتھ مختلف اعمال: تسبیح کے سلسلے میں نازل ہونے والی بیشتر آیات مبارکہ میں جہاں آپ کو تسبیح پر مامور کیا گیا وہیں بعض دوسرے اعمال قلبیہ اور عبادات بدنیہ کا بھی حکم دیا گیا، مثلاً سورہ حجر میں تسبیح کے ساتھ ساتھ نماز اور سجدے کا حکم دیا گیا، اور فرمایا:

وَلَقَدْ نَعَلَكُمْ أَنْتَكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿٩٨﴾ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٩٩﴾ - [سورہ حجر: 97-99]

یعنی ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے، تو اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، اور اپنے رب کا بلاوا آنے تک اسی کی بندگی کرتے رہو۔

ہے میں وہ نہیں جانتا، بے شک تو سارے غیوب کو جاننے والا ہے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام قیامت کے اللہ کے حضور اس کی تسبیح و تحمید بیان کریں گے، اور ہر قسم کے کفر و شرک سے بیزاری ظاہر کریں گے۔

**رسول اللہ ﷺ کی تسبیح:**  
نماز، توبہ و استغفار، ذکر و دعا، اور تسبیح و تہلیل اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اسی لیے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نیک اور محبوب بندوں کو حکم دیا کہ وہ ہمہ وقت اپنے رب کا ذکر کرتے رہیں اور اسی کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہیں۔ اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ ہمارے آقا و مولیٰ حضور رحمت عالم ﷺ اللہ کے سب سے زیادہ محبوب و مقرب ہیں، اسی لیے قرآن کریم میں آپ کو جابجا عبادت کا حکم دیا، مختلف طریقوں پر عبادت کرنے، ہمہ وقت تسبیح ورد زبان رکھنے اور اپنے رب کی یاد میں مصروف رہنے کی تاکید کی، ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً سولہ سے زائد مقامات پر آپ کو تسبیح و تہلیل کا حکم دیا گیا، تسبیح کے باب میں نازل ہونے والی آیات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو درج ذیل طریقوں پر تسبیح کا حکم دیا۔

- (1) - مطلقاً تسبیح۔
- (2) - تسبیح کے ساتھ ساتھ حمد الہی۔
- (3) - مختلف اوقات میں تسبیح۔
- (4) - تسبیح کے ساتھ مختلف اعمال۔
- (5) - فتح مکہ کے بعد اور وفات سے پہلے تسبیح۔

اب آئیے اس اجمال کی قدرے تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔

(1) - مطلق تسبیح کا حکم: اللہ جل شانہ نے سورہ واقعہ میں دو مرتبہ، سورہ حاقہ میں ایک مرتبہ، اور سورہ اہلی میں ایک مرتبہ تسبیح کا حکم دیا، اور اس تسبیح کو کسی وقت یا کیفیت کے ساتھ مختص نہیں کیا بلکہ مطلقاً فرمایا کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرو۔ البتہ سورہ واقعہ اور حاقہ میں تسبیح کا حکم دیا تو فرمایا: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ یعنی عظمت والے رب کی پاکی بیان کرو، جب کہ سورہ اہلی میں فرمایا: سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى۔ یعنی بزرگی اور برتری والے رب کی پاکی بیان کرو۔

(2) - تسبیح کے ساتھ ساتھ حمد باری: قرآن کریم کی مختلف سورتوں میں اللہ عزوجل نے اپنے محبوب ﷺ کو تسبیح کے ساتھ ساتھ

سورہ فرقان میں تسبیح کے ساتھ توکل کا حکم دیا گیا، فرمایا:  
 وَتَوَكَّلْ عَلَى النَّجِيِّ الَّذِي لَا يُؤْتِي سَبِيحًا بِحَمْدِهِ -  
 اس زندہ رب پہ بھروسہ کرو جس کو موت نہیں آسکتی، اور اسی کی  
 تعریف کرتے ہوئے پاکی بیان کرو۔

سورہ طہ، سورہ ہق اور سورہ مطور میں صبر کی تعلیم دی، پھر تسبیح کا حکم  
 ہوا، جب کہ سورہ ہنفر میں صبر کے ساتھ استغفار کی تعلیم دی، پھر تسبیح کا  
 حکم دیا، فرمایا:

فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَسْتَغْفِرْ لِدُنْيَاكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ  
 رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴿٥٥﴾ - [سورہ ہنفر: 55]

صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اپنے لیے استغفار کرو،  
 اور صبح و شام اسی کی تحمید و تسبیح بیان کرو۔

ان تمام آیات مبارکہ میں مختلف اعمال کے ساتھ تسبیح کا حکم دیا  
 گیا ہے، جس سے تسبیح کی غیر معمولی اہمیت واضح ہوتی ہے، اور یہ حقیقت  
 بجا طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کو تسبیح بہت زیادہ پسند ہے، اسی لیے  
 اس نے دیگر اعمال خیر کے ساتھ لازمی طور پر تسبیح کا حکم دیا۔

واضح رہے کہ تسبیح کی دو قسمیں ہیں، ایک تسبیح لسانی، دوسرے تسبیح  
 قلبی۔ اور ان آیات میں دونوں قسمیں مراد لی جاسکتی ہیں، اگر تسبیح لسانی  
 مراد ہو تو ان آیات کا مطلب یہ ہوگا کہ دیگر کارہائے خیر کے ساتھ زبان  
 کو تسبیح و تہلیل میں مصروف رکھو، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ جب بدنی  
 عبادت مثلاً سجدہ کرو تو زبان سے اس کی تسبیح بیان کرتے رہو، جب قلبی  
 عبادت مثلاً توکل کرو تو زبان سے اس کی تسبیح بیان کرتے رہو، اور جب  
 لسانی ذکر مثلاً استغفار کرو تو تب بھی زبان سے اس کی تسبیح بیان کرو، اس  
 طرح ہر لمحہ اسی کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہو، یہ تسبیح لسانی کی صورت  
 ہوئی۔ اور اگر تسبیح قلبی مراد ہو تو ان آیات کا مطلب یہ ہوگا کہ جب اپنے  
 اعضا و جوارح کو مختلف کارہائے خیر میں مصروف رکھو تو دل کو اس کی تسبیح  
 میں لگا دو، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ جب بھی کوئی کار خیر کرو تو اپنے  
 رب سے اچھی امید رکھو، اور یقین جانو کہ اللہ کی شان اس سے بلند ہے کہ  
 کوئی اس سے نیک امید رکھے اور وہ اسے ناامید کر دے۔ جب سجدہ کرو تو  
 یہ امید رکھو کہ اللہ کی شان یہ نہیں کہ کوئی دل برداشتہ، ملول خاطر اس کے  
 حضور سجدہ ریڑھ ہو، اور وہ اسے سکون قلب عطا نہ کرے۔ جب مصائب  
 و آلام پر صبر کرو اور اس کی فیصلوں پر راضی ہو جاؤ تو دل میں یہ یقین رکھو  
 کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ کوئی اس پہ توکل کرے اور وہ اسے خائب و خاسر

لوٹا دے، کوئی اس کی رضا کے لیے صبر کرے اور وہ اس کی دست گیری نہ  
 کرے۔ اسی طرح جب زبان سے استغفار کرو تو دل میں اس یقین کو جگہ  
 دو کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ کوئی اس سے معافی چاہے اور وہ اسے معاف  
 نہ کرے، اسی کا نام تسبیح قلبی ہے۔

(5) - اخیر عمر میں تسبیح کا حکم: اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب  
 پاک ﷺ کو اخیر عمر میں بکثرت تسبیح و استغفار کرنے کا حکم دیا، فرمایا:  
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ  
 الْفَتْحُ ○ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ○ فَسَبِّحْ  
 بِحَمْدِ رَبِّكَ ○ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ ○ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ○ - [سورہ نصر: 1-3]

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان خوب رحم فرمانے والا  
 ہے۔ جب اللہ کی مدد آجائے اور مکہ فتح ہو جائے، اور لوگوں کو اللہ کے  
 دین میں فوج در فوج داخل ہوتے دیکھو، تو اپنے رب کی تعریف کرتے  
 ہوئے اس کی تسبیح بیان کرو، اس کے حضور استغفار کرو، بے شک اللہ  
 توبہ قبول فرمانے والا ہے۔

اس سورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب  
 ﷺ سے بیان فرمایا کہ فتح مکہ اور وسیع پیمانے پر عربوں کے قبول  
 اسلام کے بعد آپ کی وفات کا وقت قریب ہو جائے گا، لہذا اپنے رب  
 کی بارگاہ میں حاضری کی تیاری کرو، اور کثرت کے ساتھ تسبیح بیان کرو،  
 اور خوب استغفار کرو۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ اس سورت  
 کے نزول کے بعد رسول کائنات ﷺ رکوع و سجود میں بکثرت یوں  
 کہا کرتے تھے:

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي -  
 اے اللہ! تیرے لیے حمد اور پاکی ہے، اے اللہ! مجھے معاف  
 فرما۔ [بخاری شریف: کتاب التفسیر، تفسیر سورہ نصر]

اس باب میں اور بھی احادیث ہیں، اور تقریباً ساری روایات کا  
 ماحصل یہی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے رب عزوجل کے حکم کی تعمیل  
 کرتے ہوئے اخیر عمر میں بکثرت تسبیح و تقدیس بیان کیا کرتے تھے۔ اور  
 ہمہ وقت اس کی یاد میں مصروف رہا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ  
 ہم اللہ عزوجل اور اس کے پیارے رسول ﷺ کے حکم پر عمل کرتے  
 ہوئے خوب استغفار کریں اور ہمہ وقت اسی کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے  
 رہیں، بطور خاص اخیر عمر میں تسبیح کی کثرت کریں۔ (جاری)

## رسول اللہ ﷺ کا حلیہ مبارک

مولانا محمود علی مشاہدی

کے شوق زیارت کو جلا، ایمان کو جلاوت اور قلب و جاں کو تقویت ملے۔  
حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی ہالہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں:

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: سَأَلْتُ خَالَيَ هِنْدَ بْنَ أَبِي هَالَةَ، وَكَانَ وَصَافًا عَنِ حَلِيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَنَا أَشْتَهِي أَنْ يَصِفَ لِي شَيْئًا مِنْهَا، أَتَعَلَّقَ بِهِ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَحْمًا مَفْحَمًا، يَتَلَأَلُ وَجْهَهُ تَلَأُلُو الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، أَطْوَلَ مِنَ الْمَرْبُوعِ، وَأَقْصَرَ مِنَ الْمُسْدَبِ، عَظِيمَ الْهَامَةِ، رَجُلَ الشَّعْرِ، إِنْ انْفَرَقَتْ عَقِيصَتُهُ فُرَّقَ، وَإِلَّا فَلَا يُجَاوِزُ سَعْرَهُ شَحْمَةُ أُذُنَيْهِ، إِذَا هُوَ وَفَرُهُ، أَزْهَرَ اللَّوْنِ، وَاسِعَ الْحَبِينِ، أَرْجَحَ الْحَوَاجِبِ، سَوَابِغٍ فِي غَيْرِ قَرْنٍ، بَيْنَهُمَا عَرْفٌ يَدِرُهُ الْغَضَبُ، أَفْنَى الْعَرِينِ، لَهُ نُورٌ يَعْلُوهُ، يَحْسَبُهُ مَنْ لَمْ يَتَأَمَّلْهُ أَشْمًا، كَثَّ اللَّحْيَةَ، سَهْلَ الْحَدَيْنِ، ضَلِيعَ الْفَمِ، أَشْنَبَ، مُفْلَجَ الْأَسْنَانِ، دَقِيقَ الْمَسْرِبَةِ، كَانَ عُنُقُهُ جِيدَ دُمِيَّةٍ، فِي صَفَاءِ الْفِضَّةِ، مُعْتَدِلَ الْخَلْقِ، بَادِنًا مَتَمَّاسِكًا، سَوَاءَ الْبَطْنِ وَالصَّدْرِ، عَرِيضَ الصَّدْرِ، بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، ضَخَمَ الْكَرَادِيْسِ، أَنْوَرَ الْمُتَجَرِّدِ، مَوْضُولَ مَا بَيْنَ اللَّبَّةِ وَالسَّرَّةِ بِشَعْرٍ يَجْرِي كَالْخَلْقِ، عَارِي الثَّدْيَيْنِ وَالْبَطْنَ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ، أَشْعَرَ الذَّرَاعَيْنِ، وَالْمَنْكِبَيْنِ، وَأَعَالَى الصَّدْرِ، طَوِيلَ الزَّنْدَيْنِ، رَحَبَ الرَّاحَةِ، سَبَطَ الْقَصَبِ، شَنَّ الْكَفَيْنِ، وَالْقَدَمَيْنِ، سَائِلَ الْأَطْرَافِ، مُخْصَانَ الْأَمْخَصَيْنِ، مَسِيحَ الْقَدَمَيْنِ، يَنْبُو عَنْهُمَا الْمَاءُ، إِذَا زَالَ زَالَ قَلْعًا، يَخْطُو تَكْفِيًا، وَيَمْشِي هَوْنًا، ذَرِيْعَ الْمَشِيَّةِ، إِذَا مَشَى كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ، وَإِذَا تَلَفَّتْ تَلَفَّتْ جَمِيْعًا، خَافِضَ الطَّرْفِ، نَظْرُهُ إِلَى الْأَرْضِ أَطْوَلَ مِنْ نَظْرِهِ إِلَى السَّمَاءِ، جُلَّ نَظْرُهُ الْمَلَا حِظَّةً، يَسُوقُ أَصْحَابَهُ، يَبْدُرُ مَنْ لَقِيَهُ بِالسَّلَامِ".

قَالَ: قُلْتُ: صِفْ لِي مَنْطِقَهُ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَوَاصِلَ الْأَحْزَانِ، طَوِيلَ الْفِكْرَةِ، لَيْسَ لَهُ رَاحَةٌ، لَا يَتَكَلَّمُ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ، طَوِيلَ السُّكُوتِ، يَفْتَحُ كَلَامَهُ وَيَخْتِمُهُ بِأَشْدَاقِهِ، يَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، فَضْلٌ لَا فَضُولَ، وَلَا

ترے خلق کو حق نے عظیم کہا ترے خلق کو حق نے جمیل کیا  
کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہو گا شہسازے خالق حسن و ادا کی قسم  
اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم ﷺ کو معنوی اخلاق اور صفاتی حسن کے ساتھ ظاہری اور جسمانی حسن و جمال اور بے مثال اخلاق و کردار کا لازوال جوہر عطا فرمایا تھا۔ محب صادق اپنے محبوب کے نشان قدم سے بھی محبت کرتا ہے، اور اس کی زندگی سے متعلق ہر بات سے واقف ہونے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کی پسند اور ناپسند سے آگاہ ہو اور وہی کام سرانجام دے جو اس کے محبوب کو محبوب ہے تاکہ محبوب کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکے۔ کمالات ظاہری و معنوی کے جامع حضور نبی کریم ﷺ کی ذات ستودہ صفات سے محبت کرنے والے کے دل میں فطری طور پر یہ جاننے کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اس عظیم ہستی کا سراپا کیسا تھا، قد و قامت اور شکل و صورت کیسی تھی، ان کے چلنے کا انداز کیا تھا، وہ گفتگو کیسے کرتے تھے، اپنے صحابہ کے ساتھ وہ کس طرح پیش آتے تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کیسے کرتے تھے۔

رسول کریم ﷺ کے سراپے حسن و جمال کو بیان کرنے کے لیے اہل قلب و نظر نے فصاحت و بلاغت کے جوہر دکھائے ہیں، شاعر و نے خامہ فرسائی کی حد کر دی ہے لیکن کوئی بھی اس مہیٹ حسن الہی کی رعنائیوں کا احاطہ نہ کر سکا۔ ہماری ظاہری آنکھیں اگرچہ رسول اللہ ﷺ کی حیات ظاہری میں اس پیکر حسن و جمال کی دلکش اداؤں کو دیکھنے سے محروم ہیں لیکن صحابہ کرام اور تابعین عظام کے ذریعے رسول اللہ ﷺ کے حسن سراپا کا جو لفظی مرقع ہم تک پہنچا ہے، جب ہم محبت رسول ﷺ میں فنا ہو کر ان شہ پاروں کا مطالعہ کرتے ہیں تو دل مسرت و شادمانی سے مچلنے لگتا ہے، آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، چہرہ ہل اٹھتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ زاد ہما اللہ شرفا و تعظیما کی پر کیف فضا میں موجود ہیں، اور رسول رحمت ﷺ کے جمال جہاں آرا میں اس قدر رحو ہو جاتے ہیں کہ دیار حبیب کی خوش گوار اور عطر بیز ہو ایسے ہماری مشام جاں کو معطر کرتی ہیں۔

ذیل کی سطور میں ہم رسول اللہ ﷺ کے حلیہ مبارک کا ذکر جمیل اس امید پر کر رہے ہیں کہ ہر امتی کے دل میں رسول اللہ ﷺ کی ذات سراپا قدس سے عشق و محبت کا تعلق پختہ سے پختہ تر ہو جائے اور اس

موٹے اور گوشت سے پر تھے، جسم کا وہ حصہ جو کپڑے سے یا بالوں سے کھلا ہوتا وہ روشن اور چمک دار تھا سینے کے اوپر ناف تک ایک لکیر کی طرح بال ملے ہوئے تھے، چھاتی اور پیٹ بالوں سے خالی تھے، دونوں بازوؤں، کندھوں اور سینہ کے بالائی حصہ پر بال تھے، کلائیوں اور پنڈلیوں کی ہڈیاں لمبی تھیں اور ہتھیلیاں کشادہ تھیں، ہاتھ اور پاؤں کی ہڈیاں موٹی اور مضبوط تھیں، انگلیاں لمبی اور پاؤں کے تلوے قدرے گہرے تھے، قدم ہموار اور اتنے نرم و نازک کہ ان پر پانی نہ ٹھہرتا تھا، چلتے تو قوت کے ساتھ آگے کی جانب جھک کر چلتے، بڑے سکون اور وقار کے ساتھ تیز تیز چلتے، چلتے ہوئے معلوم ہوتا کہ آقاے کریم ﷺ بلندی سے نشیب کی طرف اتر رہے ہیں، اور جس کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو یکبارگی متوجہ ہوتے، نظر جھکا کر چلتے، نگاہ آسمان کے بجائے زمین کی طرف زیادہ ہوتی، رسول اللہ ﷺ کی عادت عموماً گوشہ چشم سے دیکھنے کی تھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اپنے آگے چلاتے، اور جو شخص بھی ملتا اسے سلام کرنے میں پہل کرتے۔“

سیدنا حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے کہا کہ رسول کریم ﷺ کی بول چال اور گفتگو کے متعلق کچھ ذکر کریں تو انہوں نے کہا: ”نبی کریم ﷺ مسلسل غمگین رہتے اور ہمیشہ غور و فکر میں ڈوبے رہتے، کسی وقت بھی رسول اللہ ﷺ کو آرام میسر نہ تھا، دیر تک خاموش رہتے اور بلا ضرورت کوئی کلام نہ کرتے، کلام کی ابتدا اور اختتام اللہ تعالیٰ کے نام سے فرماتے، کلام جامع کلمات پر مشتمل ہوتا، اور کلام الگ الگ الفاظ و کلمات والا ہوتا، بات ایسی مکمل ہوتی کہ اس میں تشنگی یا زیادتی نہ ہوتی، سخت دل اور ظالم بھی نہیں تھے اور نہ ہی کوتاہ اندیش یا کسی کو حقیر سمجھنے والے، کسی کا احسان اگرچہ ٹھوڑا ہو، اس کا بڑا خیال کرتے اور اس کی نیکی میں سے کسی چیز کی بھی مذمت نہیں کرتے تھے۔ کھانے پینے کی کسی چیز میں عیب نہیں نکالتے تھے اور نہ ہی اس کی بے جا تعریف کرتے۔ دنیا اور اس کے تمام امور آقاے کریم ﷺ کو غضبناک نہ کر سکے، ہاں اگر حق سے تجاوز کی جاتی تو کوئی چیز بھی رسول اللہ ﷺ کے غصے کو اس وقت تک نہ روک سکتی جب تک اس کا انتقام نہ لے لیتے، اپنی ذات کے لیے ناراض نہ ہوتے اور نہ ہی اپنی ذات کے لیے انتقام لیتے تھے، اشارہ فرماتے تو اپنے پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے، جب کسی بات پر تعجب کا اظہار فرماتے تو ہتھیلی کو الٹا کر دیتے، جب بات فرماتے تو آپ کی بات ہتھیلی کو تحریک دینے کے ساتھ ملی ہوتی اور اپنی دائیں ہتھیلی اپنے بائیں انگوٹھے کی اندرونی جانب بند کرتے، جب غصے میں ہوتے تو منہ پھیر لیتے اور احتراز فرماتے اور جب خوش ہوتے تو اپنی نظر جھکا دیتے، رسول اللہ ﷺ کا زیادہ سے زیادہ ہنسنا صرف مسکراہٹ تک محدود تھا۔ مسکراتے تو اولوں کی طرح سفید دانت ظاہر ہوتے۔“ (جاری) ☆☆☆

تَقْصِيرٍ، دَمَتْ لَيْسَ بِالْحَافِي، وَلَا الْمُهَيْنِ، يُعْظَمُ النُّعْمَةَ، وَإِنْ دَقَّتْ، لَا يَذُمُّ مِنْهَا شَيْئًا، لَا يَذُمُّ ذَوَاقًا وَلَا يَمْدَحُهُ".  
 وَفِي رَوَايَةٍ غَيْرِهِ: "لَمْ يَكُنْ ذَوَاقًا، وَلَا مَدْحَةً، وَلَا تُعْضِبُهُ الدَّنْيَا، وَلَا مَا كَانَ لَهَا، وَإِذَا نُعُوِطِيَ الْحَقُّ، لَمْ يَعْرِفْهُ أَحَدٌ، وَلَمْ يَقُمْ لِعُضْبِهِ شَيْءٌ، حَتَّى يَنْتَصِرَ لَهُ، وَلَا يَعْضِبُ لِنَفْسِهِ، وَلَا يَنْتَصِرُ لَهَا، إِذَا أَشَارَ بِكَفِّهِ كُلِّهَا، وَإِذَا تَعَجَّبَ قَلْبَهَا، وَإِذَا تَحَدَّثَ اتَّصَلَ بِهَا يَضْرِبُ بِرَاحَتِهِ الْيُمْنَى بَاطِنَ إِبْهَامِهِ الْيُسْرَى، وَإِذَا غَضِبَ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ، وَإِذَا فَرِحَ غَضَّ طَرَفَهُ، جَلَّ ضَحِكُهُ التَّبَسُّمُ، وَيَقْتَرُ عَنْ مِثْلِ حَبِّ الْعَمَامِ". (دلائل النبوة للبيهقي، ج: ۱، ص: ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، دار الکتب العلمیہ)

ترجمہ: حسن بن علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی ہالہ سے دریافت کیا، اور وہ رسول اللہ ﷺ کے حلیہ مبارک کو بڑی وضاحت سے بیان کرتے تھے، اور میں جانتا تھا کہ وہ مجھے رسول اللہ ﷺ کے ایسے اوصاف بتادیں جن کو میں اپنے دل میں بٹھا لوں، تو انھوں نے بیان کیا کہ: ”رسول اللہ ﷺ نہایت عظیم اور باوقار شخصیت کے مالک تھے، چودھویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ مبارک چمکتا تھا، قدم مبارک عام درمیانے قدم سے کچھ لمبا اور بہت لمبے قدم سے ٹھوڑا کم تھا، سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، بال مبارک کچھ بل کھائے ہوئے تھے، سر کے بالوں میں سہولت سے مانگ نکل آتی تو رہنے دیتے ورنہ مانگ نکالنے کا اہتمام نہ فرماتے، رسول اللہ ﷺ کے بال جب زیادہ ہوتے تو کانوں کی لو سے زیادہ لمبے نہ ہوتے، رسول اکرم ﷺ چمک دار روشن رنگ والے تھے، پیشانی وسیع اور کشادہ تھی، لمبی، باریک خمدار پلکوں والے تھے جو پوری اور کامل تھیں، ان کے کنارے آپس میں ملے ہوئے نہیں تھے، ان کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر آتی تھی، ناک کا بانسہ باریک اور لمبا اس کے اوپر اونچا نور دکھائی دیتا، جس نے غور سے نہ دیکھا ہوتا وہ خیال کرتا کہ رسول کریم ﷺ کی ناک مبارک درمیان سے اوجھی ہے، گھنی داڑھی والے اور کشادہ ہموار رخساروں والے تھے، دانت مبارک کھلے اور کشادہ تھے، سینے کے بال ناف تک باریک لکیر کی طرح تھے، گردن مبارک اتنی خوب صورت اور باریک تھی جیسے گوہر آب دار کو تراشا گیا ہو اور وہ رنگ و صفائی میں چاندی کی طرح سفید اور چمک دار تھی، درمیانی اور معتدل خلقت والے تھے، مضبوط اور متوازن جسم والے تھے، سینہ اور پیٹ برابر اور ہموار تھا، رسول کریم ﷺ کا سینہ مبارک کشادہ تھا، دونوں کندھوں کے درمیان کچھ دوری اور فرق تھا، ہڈیوں کے جوڑ

## کیا فرماتے ہیں مفتیان دین / سوال آپ بھی کر سکتے ہیں

### آپ کے مسائل

\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\* مفتی اشرفیہ محمد نظام الدین رضوی کے قلم سے \*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-

حرج نہیں، یہ جائز ہے کیوں کہ ہر شخص کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنا جانور کم یا زیادہ جتنے میں چاہے بیچے بس فریقین کی رضامندی ضروری ہے۔ اگر یہاں خرید و فروخت کی یہ صورت ہو تو جائز ہے۔

واللہ تعالیٰ اعلم

### ادھار فروخت کرنے کی صورتیں

ادھار فروخت کرنے کی کیا صورتیں ہیں؟

### الجواب:

ادھار فروخت کرنے کی دو صورتیں ہیں، ایک جائز، دوسری

ناجائز۔

### قربانی کا ایک مسئلہ

بارگاہ عالی میں عرض یہ ہے کہ چند سال قبل عزیز المساجد میں مسائل قربانی کے سلسلے میں ایک بابرکت مفضل منعقد ہوئی تھی، اس مفضل میں استاذ مکرم حضور سراج الفقہادام ظلہ العالی نے فرمایا تھا کہ حدیث شریف ”ایام النحر ثلاثۃ“ میں ”نحر“ کی اضافت ”ایام“ کی طرف ہے۔

یہ اضافت والی بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے۔

اس حدیث شریف میں تو ”ایام“ کی اضافت ”نحر“ کی طرف ہے، جیسے کہ ”صلاة الظهر“ اور ”صوم شہر رمضان“ میں ”صلاة“ اور ”صوم“ کی اضافت ”ظہر“ اور ”شہر رمضان“ کی طرف ہے۔

پہلے تو میں نے ماہنامہ اشرفیہ میں اسے پڑھا پھر حضور والا کی تقریر کی ریکارڈنگ بھی سنی لیکن سمجھ نہ سکا۔

لوگوں کی رہنمائی کے لیے اس مسئلے کو ویب سائٹ پر عید الاضحیٰ سے قبل شیر کرنا ہے لیکن حضور والا کی اہم ترین امور میں مصروفیت دیکھ کر واٹس ایپ پر بار بار سوال کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے میں نے چند احباب سے رجوع بھی کیا لیکن جواب نہ ملا۔ چند دنوں سے ہمارے ایک ساتھی جامعہ میں ہیں ان سے میں نے کہا کہ: ”آپ استاذ مکرم حضور سراج الفقہادام ظلہ العالی سے بالمشافہہ جا کر سمجھ لیں“۔ تین چار دن ہو گئے لیکن ابھی تک انہیں ملاقات کا شرف نہ ملا، آج وہ اپنے گھر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اس لیے مجھے مجبوراً واٹس ایپ کے ذریعہ بارگاہ عالی میں

(1)۔ اگر جانور کی خرید و فروخت مقررہ دام مثلاً دس ہزار (10000) روپیے میں ہو جائے پھر مثلاً ایک مہینہ ادھار ہونے کی وجہ سے 10 فیصد یا کم و بیش بڑھا کر دے تو یہ صورت ناجائز و گناہ ہے کہ یہ ادھار دام (قرض) سے نفع اٹھانا ہے جو سود ہے، مولائے کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض کی وجہ سے جو نفع لیا جائے وہ سود ہے۔ (مسند حارث) فقہانے بھی اپنی کتابوں میں اسے سود بتایا ہے اور سود لینا دینا حرام و گناہ ہے اس لیے خرید و فروخت کی اس صورت سے پرہیز کرنا فرض ہے۔

(2) دوسری صورت یہ ہے کہ شروع ہی میں خرید و فروخت ادھار دام کے بدلے میں ہو مثلاً یہ کہ میں نے یہ جانور ایک یا دو مہینے کے ادھار پر بارہ ہزار (12000) روپیے کے بدلے میں بیچا یہ صورت جائز ہے کہ جس دام پر جانور بیچا ہے دو مہینے بعد بھی وہی دام وصول ہو رہا ہے یہاں ادھار یا قرض کی وجہ سے مقررہ دام پر کچھ بھی اضافہ کا لینا دینا نہیں ہے، ہاں جانور کا اصل دام پہلے ہی مثلاً دو ہزار (2000) روپیے بڑھا دیا گیا ہے کیوں کہ یہ معلوم ہے کہ خریدار ادھار ہی لے گا اور ادھار کی وجہ سے تاجروں کے عرف میں دام زیادہ ہو جاتا ہے۔

ہدایہ میں ہے:

و یزاد لاجل الاجل.

یعنی ادھار کی وجہ سے دام بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی



نماز کے مسائل معلوم ہوتے ہیں اور نہ ہی اس کی قرأت مایجوز بہ الصلوٰۃ کی حد تک درست ہوتی ہے۔ ہم سنیوں کے یہاں نہ کوئی تنظیم اور نہ ہی کوئی ادارہ ان دیہاتوں پر توجہ دیتا ہے۔ اس کے برخلاف بد مذہبوں کے ادارے ایسے گاؤں (جہاں کی مسجد میں کوئی امام نہ ہو) میں پہنچ کر وہاں کے سنی مسلمانوں سے تعلق پیدا کرتے ہیں اور اپنے فنڈ سے ان مسجدوں میں اپنا امام مقرر کر دیتے ہیں۔ بھولے بھالے سنی مسلمان مفت میں پابندی کے ساتھ نماز پڑھانے والے امام کا انتظام پا کر بہت متاثر ہوتے ہیں اور پھر دھیرے دھیرے ان ہی کے ہو جاتے ہیں پورا پورا دیہات ہمارے ہاتھ سے نکل جا رہا ہے۔

ان حالات کو دیکھتے ہوئے کچھ ملت کے ہمدرد اور مخیر حضرات نے ایک تنظیم بنائی جس کا واحد مقصد ایسے دیہاتوں میں اپنے فنڈ سے ایسے اماموں کا انتظام کرنا ہے جو پنج وقتہ نماز، نماز جمعہ، رمضان شریف میں نماز تراویح پڑھائیں اور ان دیہاتوں میں ایسے مدرسین کا انتظام کرنا ہے جو بچوں کو قرآن مجید کی تجوید کے ساتھ تعلیم دیں۔ اسی طرح وقت ضرورت اصلاحی پروگرام منعقد کیا جائے تاکہ ان کے عفت اند و اعمال درست رہیں اور بد مذہبوں کی دسترس سے دور رہیں۔

مگر اس کام کے لیے خطیر رقم کی ضرورت ہے جو اربابین تنظیم کی ماہانہ ممبری فیس سے پوری نہیں ہو سکتی اس لیے دریافت طلب امر یہ ہے کہ کیا ان کار خیر کے لیے زکوٰۃ کی رقم کا حیلہ شرعی کیا جا سکتا ہے؟

### الجواب:

تقابل ادیان کے جو اغراض و مقاصد بیان کیے گئے ہیں ان کے پیش نظر یہ شعبہ ایک اہم دینی شعبہ ہے جس کی قوم و ملت کو ضرورت بھی ہے اور آج ایسے افراد نایاب یا بہت کم یاب ہیں جو اس طرح کے اغراض و مقاصد میں اپنا سرمایہ صرف کریں اس لیے اس شعبے کے قیام و فروغ میں مال زکوٰۃ بعد حیلہ شرعی صرف کیا جا سکتا ہے ہاں اس کا لحاظ رہے کہ بقدر حاجت صرف ہو، کچھ اہل خیر کو بھی اس کے تعاون کے لیے راغب کرنا چاہیے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

☆☆☆

درخواست دینی پڑی۔ اب رہ نمائی کے لیے بارگاہ عالی کی جانب نگاہ امید اٹھی ہوئی ہے۔

### الجواب:

آج تمہارے سوال پر میری نظر پڑی، لگتا ہے کہ لغزش زبان سے یہ فرق ہوا، یہاں صرف اضافت کا لفظ کافی تھا۔ کہ اصل یہی ہے کہ ایک شے کی اضافت دوسری شے کی طرف دونوں میں سے ایک کے سبب اور دوسرے کے سبب ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ خواہ سبب یا حکم کی اضافت سبب کی طرف ہو جیسے صلاة الظهر، خواہ سبب کی اضافت سبب اور حکم کی طرف جیسے یوم الجمعة اور یوم النحر۔ تو استدلال بھی صحیح ہے اور حکم بھی صحیح ہے ہاں بیان میں صرف اضافت کا ذکر ہونا چاہیے تھا یا یہ کہ ایام کی اضافت نحر کی طرف ہے یعنی سبب کی سبب کی طرف۔ ردالمحتار کی درج ذیل عبارت سے اس بات کی وضاحت اور تائید ہوتی ہے۔ ردالمحتار میں ہے:

الاصل فی إضافة الشئ الی الشئ أن یکون سببا... وقد تكرر وجوب الأضحیة بتكرر الوقت وهو ظاهر ووجدت الإضافة فإنه یقال یوم الأضحی كما یقال یوم الجمعة أو العید وإن كان الأصل إضافة الحکم الی سببه كصلاة الظهر، لكن قد یعکس کیوم الجمعة. والدلیل علی سببیتة الوقت امتناع التقديم علیہ کامتناع تقدیم الصلاة. (ردالمحتار ج 6 ص 625 کتاب الاضحیة، دارالفکر، بیروت).

یہ صرف ایک سہولفظی ہے اس سے حکم اور استدلال میں کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اشاعت مقصود ہو تو اصلاح کر لی جائے تاکہ یہ لفظی سہو بھی نہ رہے، توجہ دلانے کا شکریہ۔ جزاک اللہ.

واللہ تعالیٰ اعلم

### کار خیر کے لیے زکوٰۃ کی رقم کا استعمال

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ  
کیا فرماتے ہیں علمائے دین مسئلہ ذیل میں کہ:  
ہمارے علاقے کے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں علمی یا معاشی اعتبار سے پسماندہ سنی مسلمان رہتے ہیں وہاں کی مساجد میں باضابطہ کوئی امام نہیں ہوتا۔ عوام میں سے کوئی شخص نماز پڑھا دیتا ہے جسے نہ تو



## مذہبیات کی سائنسی توجیہ ایک فکری تجزیہ

مولانا پٹیل عبدالرحمن مصباحی

رکوع سجدہ والی نماز کے ساتھ خاص قرار دیا ہے۔ حکمت و علت کے اس تاریخی تسلسل کے باوجود توجہ طلب امر یہ ہے کہ حکمت اور چیز ہے اور جدید سائنس چیزے دیگر۔ بلکہ خود حکمت و علت بھی ایک دوسرے کے غیر ہیں۔ حکمت اپنے دامن میں ماڈیت اور روحانیت کے دونوں جہان لیے ہوئے ہے، جب کہ جدید سائنس اپنی تنگ دامنی کے سبب محض مادی دنیا تک محدود ہے۔ جدید سائنس اپنی اصل میں ظاہر پرست واقع ہوئی ہے جب کہ اسلام دین ہونے کے حیثیت سے دنیا و آخرت، ظاہر و باطن، عقیدہ و عمل اور ایمان بالظاہر و ایمان بالغیب کے مجمع البحرین میں غوطہ زنی کا داعی ہے۔ ایسے بحر ناپید انکار کو مادہ سے بنی ہوئی سائنس کی چھوٹی سی ظاہر پرست کشتی کے ذریعے عبور کرنے کی کوشش کرنا؛ چچ سے سمندر خالی کرنے جیسا بلکہ اس سے بھی زیادہ غیر معقول ہے۔

کوئی ضرورت نہیں کہ اسپیس شپ (Spaceship) کی سائنسی ایجاد کے پس منظر میں براق کی توجیہ کی جائے یا شق صدر کو آپریشن کا پیش خیمہ قرار دیا جائے یا شق القمر کی توجیہ کے لیے ریوٹ کنٹرول کی مثال سامنے رکھی جائے یا اوقات ممنوعہ میں نماز سے روکے جانے کو سورج کی مضر شعاعوں کے ساتھ جوڑا جائے۔ وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے کہ خرق عادت افعال اور روحانی تجربات کو کبھی بھی ماڈیت کے تنگ دائرے میں مقید نہیں کیا جاسکتا۔ جب بھی اس قسم کی کوشش کی جائے گی تب ہم خود جانے انجانے میں معجزات کے تخیل کا اعلیٰ معیار گرانے اور روحانیت کے عظیم تصور کو مجروح کرنے میں ساتھ دے رہے ہوں گے۔ اس قسم کی جدید بمعنی الایعنی توجیہات کی واضح مثال سر سید کی نیچریت، ابو الاعلیٰ مودودی کی سیاست، جاوید غامدی کی جدت اور وحید الدین خان کی وطنیت پر مبنی توجیہات میں دیکھی جاسکتی ہے۔ ایک صدی تک پھیلی ہوئی چاروں افراد کی مفاہمتی کوششوں کا

انگریزی کی ایک کہاوت ہے

The theology, that marries the science  
of today, will be the widow of tomorrow.

”آج اگر مذہبیات کی شادی سائنس سے کرائی گئی تو کل وہ (مذہبیات) بیوہ ہو جائے گی۔“

تم نصیبی سے آج کل یہ کام ہمارے یہاں بڑے پیمانے پر دینی علوم کی تشریح میں کیا جا رہا ہے۔ اسلام نے اشیا میں اصل اباحت کو قرار دیا ہے، یہی ایک قاعدہ تمام سائنسی ایجادات اور جدید نظریات کو قبول کرنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے کافی ہے، جب تک وہ اسلامی اصولوں سے متصادم نہ ہوں۔ اس کے ساتھ قرآن کی؛ تدبر و تفکر اور تفسیر کائنات کی دعوت؛ ہر جدید کو اپنے اندر ضم کرنے اور اس سے دینی و دنیوی فوائد حاصل کرنے کے جواز کا اہم ماخذ ہے۔ بلاوجہ دور از کار تاویلات میں پڑ کر سائنسی تشریح کا فخر حاصل کرنے کی آج کل جو ریس (Race) لگی ہوئی ہے، اس کے لیے ”اِنَّهُمْ اَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِ“ کی تعبیر متوازن معلوم ہوتی ہے۔ المیہ یہ بھی ہے کہ اہل سنت و جماعت؛ جن کے اسلاف اس قسم کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ تھے؛ آج کل وہ بھی کسی حد تک اسی جدید توجیہات والے چکر میں مبتلا ہوتے ہوئے نظر آرہے ہیں۔

بلاشبہ حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے اور جو حکمت یافتہ ہے وہ خیر کثیر کا مالک ہے۔ لہذا احکام کی حکمتوں کو اجاگر کرنا اور ان کے ذریعے اسلام کی حقانیت کا اعلان کرنا؛ یقیناً ایک محمود و موثر عمل ہے۔ فقہانے صدیوں تک مسائل کی علتوں کا استخراج کیا ہے، پھر معقول علتوں پر احکام کو دائر بھی کیا ہے۔ حتیٰ کہ وہ نصوص جو بظاہر عقل کے خلاف معلوم ہوں ان کی معقول توجیہ یا ان کے دائرہ عمل کی تحدید بھی کی ہے۔ مثلاً قہقہہ سے فساد نماز و وضو کی نص کو اس کے مورد یعنی کہ

کے ہاتھ چڑھتا ہے تو ایک سے تین کی جگہ بے چارے کی تین سے ایک کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے۔ ایسی لایعنی تشریحات کے نتیجے میں آخر کار یہ منسوخ مذاہب؛ مابعد جدید دور میں اپنی الحاد زدہ شکل ہی پر رضامند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔

ناخ الادیان اور دین کامل کے طور پر انسانیت کی آخری پناہ گاہ اسلام ہے۔ خدا کے آخری پیغام کی روشنی اور آخری پیغمبر کی رہنمائی میں آخری دور کی امت کے لیے وحی اور سنت کی جو عظیم شاہ راہ دکھلائی گئی ہے وہ اسلام ہے۔ وحی اور پیغمبرانہ فراست کی وسعتوں کو جدید سائنس کے محدود پیمانے سے ناپنے کی کوشش کرنا ایسے ہی ہے جیسے وہ بچہ جس کے حواس ابھی کمال کو نہیں پہنچے ہیں اس کا بنگلف اعلیٰ تجربات کے میدان میں اپنی حیثیت منوانے کی کوشش کرنا۔ بسا اوقات ہم اچھی نیت کے ساتھ مذہبیات کی سائنسی توجیہ کا دروازہ کھولتے ہیں مگر جب اس میں بے احتیاطی کا مست ہاتھی لے کر کوئی نااہل داخل ہونے لگتا ہے تو صرف ظاہری ڈھانچے ہی کو نہیں، بنیادوں کو بھی ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ ہمیں صراحت کے ساتھ یہ بتانا ہو گا کہ ہم اسلام کو پیغمبرانہ تعلیمات کی بنیاد پر مانتے ہیں؛ جن کا ماخذ وحی ہے، اپنی ناقص عقلوں کی بنیاد پر نہیں مانتے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی اسلامی حکم کا Reason تلاش کریں اور اس کے ذریعے عقل کو مطمئن کریں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم عقل کے گھوڑے پر سوار ہو کر وحی کی آسمانی عظمتوں کو فراموش کر چکے ہیں۔ جیسے دلیل کی بنیاد پر بات کو ماننا ہمارا ایک طریق ہے ایسے ہی وحی کی بنیاد پر عقل سے ماورا باتوں کو ماننا ہمارا اولین طریق ہے۔

تقریر مسئلہ، تقریب فہم، تسکین مخاطب اور معترض پر معارضے کے لیے جدید سائنس کا سہارا لینا مذموم نہیں، لیکن اگر اس سے آگے بڑھ کر دین کی بنیاد سائنس پر رکھنے کا طریقہ اپنایا جائے تو یہ غیر کفو میں رشتہ کرنے کے مترادف ہو گا۔ مناسب تو یہ ہے کہ دین جس قسم کی اعلیٰ اقدار پر مشتمل ہے، اس کے لیے وحی جیسا اعلیٰ source of knowledge ہی چنا جائے تاکہ جوڑا بھی خوبصورت ہو اور ان کا گھر یعنی دنیا بھی آباد رہے۔ مذہبیات کے لیے وحی سے کم تر کوئی سہارا تراشا گیا تو آج کی مذہبیات کل بیوہ ہو کر رہ جائے گی۔

☆☆☆

حاصل سوائے نئی نسل کی مذہب بیزاری کے اور کچھ نہیں نکلا۔ سائنس کے نقش قدم پر مذہبیات کی ماڈی توجیہ کا یہ عمل اس لیے بھی خطرناک ہے کہ یہ دو دھاری تلوار ہے اور اس کے دونوں ہی کنارے ہمارے لیے ایمان لیوا ہو سکتے ہیں۔ ایک طرف یہ کھٹکا ہے کہ جس سائنسی تحقیق پر توجیہ کی بنیاد رکھی گئی ہے اگر وہ کسی نئی تھیوری کے سبب راتوں رات تبدیل ہو گئی تو اس وقت کیفیت یہ ہو گی کہ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن۔ سائنس کو سستے بھی بات نہیں بنے گی اور مذہب کے دفاع کی بھی کوئی راہ نہیں سوچھے گی۔ دوسری طرف اس بات کا بھی ڈر ہے کہ ملحدین جو اب تک دین کے اعتقادی و روحانی نظام کی وجہ سے لاجواب ہیں ان کو ماڈیٹ کے میدان میں دین کو مات دینے کی آسان راہ ہاتھ لگ جائے گی۔ ان کے لیے بہت آسان ہو گا کہ ہماری توجیہ میں دکھائی گئی مطابقت کو باطل قرار دے کر کسی سادہ ذہن کو دین سے بدظن کر دیں۔ یاد رکھیں سائنس کے نظریات کبھی بھی حتمی نہیں ہوتے، ہر نئی ریسرچ کے بعد ایک نیا موقف سامنے آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغرب میں ism اور logy کی بھرمار نظر آتی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں الفاظ تبدیل کر کے مصدر بناتے ہیں ویسے سائنسی دنیا میں آئے دن ازم اور لوجی کے نام پر ایک نیا نظریہ مان لیا جاتا ہے۔ نتائج کے اعتبار سے غیر یقینی ہونے کا یہی وہ عیب ہے جس کی وجہ سے سائنس کبھی بھی مذہب کا متبادل نہیں ہو سکتی۔

یہ بات بھی قابل غور ہے کہ، جدید سائنس اور مذہب کے بیان کردہ روحانی تجربات یا ماورائے عقل معجزات کے درمیان مفاہمت کی؛ اس قسم کی کوشش؛ منسوخ ادیان کے ذریعے ماضی قریب میں ہو چکی ہے اور نتیجے میں انہیں الحاد سے منہ کی کھانی پڑی ہے۔ ہندو ازم ہو چاہے عیسائیت یا یہودیت؛ سب یہ غلطی کر چکے ہیں اور اب انہیں تدارک کی کوئی راہ نظر نہیں آرہی۔ ہمیش کے دھڑ پر ہاتھی کا سرفٹ کرنے والی روایت کو آپریشن کی بنیاد بنا کر اترانے والا ہندو؛ آج تک ملحدین کا یہ اعتراض سن کر ہکا بکا کھڑا ہے کہ اگر انسان کے سر کی جگہ جانور کا سر لگانا ٹھیک ہے بلکہ قابل فخر ہے تو مرد کے آلہ تناسل کو عورت کے آلہ تناسل میں تبدیل کرنا کیوں غلط ہے، خصوصاً تب جب کہ دونوں ہی انسان ہیں۔ ایسے ہی تثلیث کو سائنسی بنیادوں پر ثابت کرنے کی کوشش کرنے والا عیسائی جب ملحدین کی Mathematics

## مسلمانوں کے زوال کے چند اسباب

### ریاض فردوسی

لوگوں کا یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ علم تو علم ہے۔ علم کی اپنی الگ الگ نوعیت ہے۔ ہمیں ہر نفع بخش علم کو حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کے بارے میں اس طرح کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے آدم ﷺ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، تو دوسری طرف علوم ہدایت بھی بتائے، ذوالقرنین ﷺ کا واقعہ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ کو اس زمانے میں آج کی اصطلاح میں انجینئرنگ کا علم بھی حاصل تھا۔ جس کی بدولت اس بادشاہ نے قوم کو یا جوج ماجوج کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے ایک دیوار بنائی تھی۔ (مزید مطالعہ سورہ کہف آیت۔ 83 تا 98)

**تیسرا سبب ہماری قوم کے بچوں اور بچیوں کا science سے بے رغبتی اور دوری ہے۔** آج بھی دسویں جماعت کا امتحان پاس کرنے کے بعد بہت کم لڑکے اور لڑکیاں science لے کر پڑھتے ہیں۔

بہت سے ہائر سیکنڈری اسکولوں میں سائنس کا شعبہ ہی نہیں ہے۔ واضح ہو کہ scientific حقائق کا جتنا قرآن پاک میں بیان ہوا ہے، اتنا تو آج کے تحریف شدہ الحامی کتا ہیں توریت، زبور اور انجیل میں بھی ذکر نہیں ہوا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر۔ 191 میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو زمین اور آسمانوں کی تخلیق پر غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے، کائنات کی ترتیب و تخلیق، سورج اور چاند کی گردشیں، ہواوں، پہاڑوں، بادلوں، بجلی کا ذکر، ماں کے پیٹ میں بچے کی stagewise پیدائش کا ذکر قرآن پاک میں ہی ملتا ہے۔ کیا یہ تمام باتیں مسلمانوں کو science پڑھنے کی ترغیب نہیں دے رہی ہیں؟

آج دنیا میں وہی ممالک اور اقوام آگے ہیں، جہاں کے لوگ science پڑھنے میں آگے ہیں۔ پچھلے کئی صدیوں سے جو بھی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں، ان سب کا سہرا غیر مسلموں کے سر رہا ہے۔ مسلمانوں کا خاص کر برصغیر کے مسلمانوں کا کوئی کردار نہیں ہے، صبح اٹھنے

**پہلی وجہ مسلمانوں کی تعلیم سے بے رخی اور دوری ہے۔** تعلیم سے مراد علم دین اور علم دنیا دونوں ہی ہیں، ایک انسان دنیاوی تعلیم حاصل کر کے اچھی نوکری تو پاس کر سکتا ہے، بینک بیلنس جمع کر سکتا ہے، اچھا مکان بنا سکتا ہے، عیش و آرام کے سامان مہیا کر سکتا ہے، جسے دیکھ کر کوئی شخص بھی بول سکتا ہے کہ اس نے کافی ترقی کی ہے، یہ شخص کامیاب و کامران ہے، لیکن اس کی کامیابی صرف مادی ہے۔ علم دین کے بغیر وہ اخلاقی تعلیم اور تربیت سے محروم ہے۔ جس کی وجہ سے زندگی کے تنازعات اور اہم فیصلوں میں اسے رہنمائی حاصل نہیں ہوتی۔ جتنے بھی جرائم آج ہو رہے ہیں، زیادہ تر اس میں غیر دینی تدریسی اداروں کے لوگ ہی ملوث پائے جاتے ہیں، کیوں کہ اسکولوں اور کالجوں میں اخلاقی تعلیم فراہم ہی نہیں کی جاتی ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ علم دین و دنیا دونوں ہی حاصل کریں۔

مسلمانوں کی حکومت ایشیا، افریقہ اور یورپ برعظیم کے بعض علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی تو یورپ کے لوگ علم کے تحصیل کے لیے مصر، بغداد اور اسپین کے Universities میں پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ وہ لوگ عربی زبان میں لکھی ہوئی سائنس، علم فلکیات، طب، فلسفہ، ریاضیات اور دیگر کتابوں کا غیر عربی زبانوں میں ترجمہ کر کے استفادہ حاصل کرتے تھے۔ دور حاضر میں وہی لوگ ہم سے آگے نکل گئے اور ہم تعلیم کے میدان میں ان سے پیچھے رہ گئے۔

**دوسرا سبب علمی تعصب ہے،** بعض لوگ دنیاوی تعلیم سے biased اور prejudiced ہوتے ہیں وہ دنیاوی تعلیم کو اصل تعلیم ہی نہیں سمجھتے اسے حقیر جانتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اصل علم تو دین کا ہی علم ہے، کبھی تو یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ دنیا بنانا ہے تو Science پڑھو اور آخرت بنانا ہے تو دین پڑھو۔ ایک صاحب تو اسکول اور کالج کے سرٹیفکیٹ کو کاغذ کی رسید کہتے ہیں۔ بعض لوگ لڑکیوں کے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے خلاف ہیں، دنیاوی تعلیم کے متعلق

ٹانگوں والے انسان ہیں؟

**پانچواں سبب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر غیروں کا قبضہ**  
ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر۔ 29 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب پیدا کیا۔ اس سے مراد مطعومات، مشروبات اور ملبوسات تو ہے ہی اس میں ان چیزوں کو بھی شامل کر لیجئے، جو زمین کے اندر مدفون ہیں، اس کے علاوہ wind اور water بھی ہیں جس سے wind energy hydroelectricity پیدا ہوتی ہے۔ ایک لفظ میں کہے تو اللہ کی نعمتیں، قدرتی ذرائع اور وسائل پر مسلمانوں کا نہیں، بلکہ غیر مسلموں کا قبضہ اور کٹرول ہے، خلیج ممالک میں تیل کے کنویں تو ہیں، لیکن تیل نکالنے کی مشینیں مغربی ممالک کی ایجاد کردہ ہیں۔ یہودی اور نصرانی ہر وقت اللہ کی نعمتوں کا دریافت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ابھی امریکہ اپنے ہی ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کا متبادل shell gas دریافت کر چکا ہے، Geographical exploration کے سبب جب امریکہ اور افریقہ میں (Dark continent) دریافت ہوا اور وہاں ان کو قدرتی خزانوں کا پتہ چلا تو Dutch Portuguese French اور British وہاں پہنچ گئے اور وہاں اپنی colony قائم کی اور ان قدرتی خزانوں کے مالک بن بیٹھے اور خوب فائدہ حاصل کیا، غفلت کے سبب مسلمان ان تمام چیزوں سے محروم رہ گئے۔

### مسلمانوں کا مسلمان ہونے پر شرم!

ایکٹر نصیر الدین شاہ نے اسلام سے متعلق جو بیان دیا ہے وہ بے حد شرم ناک اور قابل مذمت ہے، جرائم کے لے اللہ تعالیٰ نے جن سزاؤں کا حکم دیا ہے اس کی تنقید کرنے سے وہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے (اس کا فیصلہ امارت شرعیہ یا ہمارے قابل قدر مفتیان اکرام و فقہاء نظام کریں گے)۔

نصیر الدین شاہ کو چور کے ہاتھ کاٹنے اور بد کاری کرنے والوں کو سنگسار کرنے کی سزاؤں پر تنقید نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مومن کی شادی صرف مومن سے ہی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سلمان خان اور اس کا پورا خاندان، گینش کی عبادت کرتا ہے۔ یہ تو مبین شرک اور کفر ہے، علما کے وفد کو ان لوگوں سے مل کر ان کے عقائد کی خرابیوں کو بتانا چاہیے تاکہ وہ توبہ کر سکیں اور اسلام پر مکمل

سے لے کر رات کو سونے تک Tongue cleaner اور چھسرا بھگانے کے لیے Goodnight تک جتنے بھی سامان ہم اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، سب کا سب یہودی، نصرانی اور غیر مسلموں کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ (الاماشاء اللہ)

**چوتھا سبب قوم مسلم کی فرسودہ سوچ اور منفی mindset**  
ہے (الاماشاء اللہ) یہ قوم اپنے پچھرے پن اور مغلوبیت کی وجہ سے اپنے اندر کی کمزوریوں کو ڈھونڈنے کے بجائے، دوسروں کو قصور وار ٹھرانے میں لگی ہوئی ہے۔

جب دیکھتے تو اسرائیل، امریکہ اور دیگر یورپین ملکوں کو ہی ذمہ دار ٹھراتی ہے، ہمارے ملک بھارت میں بھاجپا اور آریس ایس کاروناروتی ہے۔ اسے اپنی خامیاں، کوتاہیاں، خرابیاں نظر نہیں آتی۔ قوم مسلم ہر وقت یہ سوچتی ہے کہ امریکہ اور یہودی، بھارت میں بھاجپا، سنگھ اور دیگر اسلام دشمن عناصر اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں، یہودی اور نصرانی مسلمانوں کے مستقل دشمن ہیں، لیکن ہم مسلمان اس غفلت میں ہیں کہ ہم بہترین امت ہیں، ہم سے کچھ مواخذہ ہی نہیں کیا جائے گا؟

یہودی بھی اسی طرح سوچتے تھے کہ ہم لوگ تو اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، ان کی اسی ناتجہی پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو بتاؤ! تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ ہم تو خیر امت ہیں بھلے ہی ہم معروف کام کریں یا نہیں اور نہ ہی منکر سے خود کو اور دوسروں کو روکیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ان کے غیر اخلاقی اعمال کے وجہ سے Nebuchadnezzar کو ان پر مسلط کر دیا جس نے ہیکل سلیمانی کو برباد کر دیا اور بعد میں Roman Titus نے AD70 میں دوسری بار ہیکل سلیمانی کو توڑ پھوڑ دیا، ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے بد اعمالیوں کے وجہ سے قدیم دور خلافت عباسیہ میں مسلمانوں پر ہلاکوخان اور جدید دور میں America کو ہم پر مسلط کر دیا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے تنزیل کے صحیح اسباب کا پتہ لگائیں اور اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔

اس چکر سے نکلنے کی فلاں ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے اور اگر وہ کر بھی رہا ہے تو ہم کیوں نہیں ان کے خلاف سازش کر پاتے ہیں آخر Americans اور دیگر لوگوں کی طرح ہم بھی ایک سر اور دو

اور اس کے دل و دماغ میں سوالات پیدا کر کے اسے سوچنے اور غور و فکر کرنے کا موقع دینا ہے۔ اس لیے آج کے دور میں مناظرہ Debate کے بجائے مکالمہ Dialogue کی ضرورت ہے۔ مکالمے و مذاکرے میں فریق کے دلائل کو سننا، اس کے اچھے نکات کی تعریف کرنا اور بعض اختلافی باتوں پر دلائل کے ساتھ گفتگو کرنا ضروری ہے۔ مکالمے میں اپنی بات کو پوری سوجھ بوجھ کے ساتھ پیش کرنا ایک فن ہے اور اپنی بات کی موثر انداز میں ترسیل کرنا Effective Communication دور جدید کا ایک آرٹ ہے۔ ہماری دعوتی منصوبہ بندی میں اس قسم کے ماہرین کو تیار کرنا بھی ضروری ہے۔ بیعت عقبہ ثانی کے بعد رسول ﷺ نے مدینہ کے سرداروں کی فرمائش پر کہ ان کے پاس ایسا معلم بھیجیں جو انہیں اسلام کی تعلیم دے سکے، تو آپ ﷺ نے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہما کو بھیجا جو بہت ہی مخلص اور ماہر نفسیات صحابی تھے، لوگوں کو اسلام پر آمادہ کرنے کی غیر معمولی صلاحیتیں ان میں موجود تھیں۔ سیرت رسول ﷺ میں ”حلف الفضول“ کا ذکر آتا ہے جو جاہلیت کے دور میں طاقت ور ظالموں سے انصاف کے حصول کے لیے قابل ذکر مشرکہ ادارہ تھا اور خود نبی اکرم ﷺ نے خواہش ظاہر فرمائی تھی کہ اگر اس قسم کی تنظیم پھر بنے تو اس میں شامل ہونا آپ ﷺ پسند فرمائیں گے۔

### آخر میں!

آسٹریلیائی کرکٹ بورڈ کا یہ شرط رکھنا کہ اسٹریلیا کی مردوں کی کرکٹ ٹیم افغان مرد کرکٹ ٹیم کے ساتھ کرکٹ اس شرط پر کھیلے گی ہے، جب افغانستان کی نئی حکومت وہاں کی خواتین کرکٹ ٹیم کو کھیلنے کی اجازت دیں، اس طرح کا شرط ایک ملک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کے برابر ہے، جو قابل مذمت ہے۔ اگر پاکستانی کرکٹ ٹیم نے یہ شرط رکھی ہوتی کہ T 20 کرکٹ میں چوکے اور چھکے پر ناچنے والی لڑکیاں نقاب میں ہوگی تو آج عالمی پیپالے پر بڑا ہنگامہ کھڑا ہو جاتا، تمام پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا مسلمانوں کے پیچھے پڑ جاتا کہ اسلام ایک دقیانوسی مذہب ہے اور مسلمان ایک جاہل قوم۔ اس لیے کوئی ہنگامہ نہیں ہے کہ اسٹریلیا مسلمانوں کا ملک نہیں ہے۔ دور حاضر میں ترقی یافتہ ملکوں کے لوگ اور ان کے حکمرانوں کے نزدیک اسلام اور مسلمانوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، وہ ہمیں صرف استعمال کی چیز سمجھتے ہیں۔ ☆☆

قائم رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہم پر احسان کیا ہے کہ ہم اسلام کی صحیح تعلیمات سے واقف ہیں، ہمیں بھی چاہئے کہ دوسرے لوگوں کو جو دین کی تعلیمات سے ٹھیک ٹھیک واقف نہیں ہیں، انہیں دین کی دعوت دیں تاکہ وہ گمراہ کن باتوں سے اجتناب کریں۔ مسلمانوں میں ایک خطرناک بیماری پیدا ہو چکی ہے کہ ہماری اکثریت مذہب کو انفرادی و اجتماعی اصلاح کے بجائے مالی و ذاتی فائدہ کے لیے استعمال کر رہی ہے اور ان لوگوں کو اس کا احساس تک نہیں ہے۔ اسلام کا اولین مقصد ہر ایک کی اصلاح ہے، لیکن اسلام کے اس اصول پر شائد ہی کوئی قائم نظر آتا ہے۔ وعدہ خلافی ہمارے معاشرے میں اس قدر عام ہے کہ شائد ہی کوئی شخص اسے خراب سمجھتا ہو۔ جھوٹ کی کثرت سے گھر، بازار، دفاتر، مساجد اور مدارس اٹے پڑے ہیں۔ حیرت کی انتہا اس بات کی ہے کہ مسلمان تاجر اپنی چیزوں کو فروخت کرنے کے لیے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کا استعمال کرتا اور سہارا لیتا ہے۔ شہد، کھجور، کلونجی اور دیگر ایشیا نیچے وقت اسے مذہبی شعار بتایا جاتا ہے۔ اسکولوں، کالجوں، دکانوں، ہسپتالوں کے نام مکہ، مدینہ، اسلامی واقعات اور اسلامی شخصیات کے نام پر رکھے جاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے جذبات کا فائدہ اٹھایا جاسکے۔

### اہم نصیحت!

اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے انفرادی و اجتماعی روابط ضروری ہیں، و فود کے ذریعے ملاقاتیں، بلا تکلف گفتگوئیں، سمپوزیم، سیمینار، تقاریر و خطابات، کارنیشننگیں وغیرہ کا اہتمام کرنا ہوگا۔ Inter Faith Dialouge یعنی مختلف مذہبی لیڈروں اور قائدین کے درمیان مذاکرات بھی اس سلسلے میں مفید اور موثر ثابت ہو سکتے ہیں۔ مستشرقین اور آریہ سماجیوں نے ماضی میں اسلام اور پیغمبر اسلام ﷺ پر کئی حملے کیے تو ہمارے علمائے کرام نے عیسائی پادریوں اور ہندو رہنماؤں سے مناظرے کیے اور شکست دی، لیکن اس قسم کے مناظروں سے اسلام کی عظمت و رفعت اور مسلمانوں میں اعتماد اور حوصلہ تو پیدا ہوتا ہے لیکن فریق ثانی کو اسلام کا قائل نہیں کرایا جاسکتا، کیوں کہ مناظرے میں ایک فریق ہارتا اور دوسرا جیتتا ہے جب کہ دعوت کا کام دلوں اور دماغوں کو متاثر کرنا اور مدعو کے دل میں داعی سے انس پیدا کرنا

## خوراک کا عالمی دن غریبوں سے بھونڈا مذاق بھوکے پیٹ سونے پر مجبور لوگ

حافظ محمد ہاشم قادری مصباحی جمشید پور

اڑی ہوئی ہے۔

خوراک پیدا کرنے والے ہی بھوک سے دوچار:

دنیا میں ہر سال 80 کروڑ سے زیادہ افراد بھوکے پیٹ رہنے پر مجبور ہیں اور ان میں سے ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو خوراک پیدا کرنے اور زرعی صنعت سے وابستہ ہیں۔ بڑے کارپوریٹ گھرانے اور حکومت کی پالیسی سے کسان اور دوسرے لوگ بھی پریشان ہیں، تین کالے قانون سے مہنگائی چرم پر پہنچ جائے گی ابھی ہی کیا کم ہے؟۔ جہاں لوگ بھوک سے پریشان ہیں، وہیں یہ بھی ایک سچائی ہے کہ بھوکوں سے زیادہ تعداد میں افراد موٹاپے اور زیادہ وزن کا شکار ہیں۔ اقوام متحدہ کے "فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن" کے مطابق دنیا میں اتنی تعداد خوراک کی موجود ہے جس کی مدد سے 10 ارب افراد کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ لیکن لوٹ کھسوٹ کی دوڑ میں کارپوریٹ گھرانوں نے بہت سی چیزوں میں اپنا پنچہ گاڑ رکھا ہے۔ ریلینس سٹور، جیومارٹ A new world of grocery shopping جو تین لاکھ سے زیادہ چیزوں کی مارکیٹنگ کرتی ہے سے لیکر بگ بازار وغیرہ تک نے اپنی اجارہ داری قائم کر رکھی ہے، غریبوں تک خوراک پہنچنے میں بڑی رکاوٹ ہیں۔

غذا کا عالمی دن 16 اکتوبر: 16 اکتوبر کو "غذا کا عالمی دن" ہے کسی بھی تاریخ کو کسی بھی نام سے دن منانے سے اُس میں بہتری آتی ہے کہ نہیں؟ لیکن سچ یہ ہے کہ یہ چونچلا روش، انداز، رکھ رکھاؤ۔ صرف دکھاو فوٹو کھینچوانے کے سوا کچھ نہیں، اس سے کوئی بدلاؤ نہیں ہوتا ہے۔ کروڑوں لوگ غریبی کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، بھوک سے بلبلارہے ہیں، حکومتوں کی اسکیموں میں لوٹ کھسوٹ سے بچ کر کچھ حصہ برائے نام ہی غریبوں تک پہنچتا ہے۔ باقی جھوٹا دکھاو و جھوٹا اشتہار اخباروں کی زینت بنتا ہے، آپ خوب جانتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔

رب العالمین سارے جہان کا پالنہار ہے، اپنی تمام مخلوق کے رزق (خوراک) کا انتظام فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ترجمہ: اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو اور جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا اور کہاں سپرد ہوگا سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے۔

(القرآن، سورہ ہود: 11 آیت 6) (کنز الایمان)

اس آیت میں مُطَلَقاً جاندار مُراد ہیں لہذا انسان اور تمام حیوانات اس میں داخل ہیں، (تفسیر خازن ج: 2 ص: 340) شیخ سعدی شیرازی رَافِعاً فرماتے ہیں "کوئی شخص روزی اپنی لیاقت اور طاقت سے حاصل نہیں کرتا، اللہ سب کا رزاق ہے"۔ دوسرا قول "رب تعالیٰ نے رزق اپنے ذمہ کرم پر رکھا، ورنہ دنیا والے وسط حلق سے بھی نوالہ نکال لیتے"۔ سچ اور حق تو یہی ہے کہ آج لوگ حلق میں پہنچنے سے پہلے ہی نکال لے رہے ہیں۔ آج کے اس لوٹ کھسوٹ کے دور میں بڑے بڑے، corporate کارپوریٹ، متحد، منظم جماعت، اجتماعی شخصیت، تاجروں نے ایسے انتظام کر رکھے ہیں کہ سارے وسائل پر اُن کا قبضہ ہو جائے اور من مانی قیمت پر جنس کو بیچیں اور یہی وہ کر رہے ہیں، چاہے دنیا بھوکوں مرے ان کی بلا سے۔ اڈانی، امبانی کے ہریانہ و ملک کے دوسرے علاقوں میں بنائے ہوئے بڑے بڑے گودام اس کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ غریب کسان جو لوگوں کی بھوک مٹانے کے لیے جی توڑ محنت کر کے غلہ پیدا کرتا ہے، اُسی "اُن داتا" پر اپنا قبضہ جمانے کے لیے پوری قوت لگا رہا ہے اس کام میں انکی مدد و معاونت میں حکومتیں بھی لگی ہوئی ہیں۔ سال پورا ہونے والا ہے پورے ملک کا کسان اور عام آدمی اپنی جائز مانگیں مانگ رہا ہے اس جائز مانگ کے احتجاج میں اب تک 800 سو کے قریب کسانوں کی قیمتی جانیں قربان ہو چکی ہیں۔ بات، بات، بات پر ٹویٹ کرنے والے ہمارے وزیر اعظم صاحب کو ان مرنے والوں کی یاد نہیں آئی، پوری حکومت اپنی ضد پر

(ص:48 کا بقیہ)۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ قافیہ اور ردیف کا ایک میکانکی عمل شاعری ہے، مگر ایسا نہیں، شاعری وجدان دل، عرفان حیات اور شعور کائنات کا وہ فنی مظاہرہ ہے جس کے لیے لفظ و بیان کی جمالیات کا ادراک و عمل بھی ضروری ہے۔ موضوعاتی شاعری کی اس تعریف پر کما حقہ پورا اثر ناقدرے مشکل ہوتا ہے، قافیہ کے انتخاب اور ردیف کی اختراع میں بڑی چابک دستی کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ فکری اور معنوی ہم آہنگی کا اہتمام اور التزام بڑا دشوار گزار ہوتا ہے۔ سید نور کی شاعری میں یہ تمام اوصاف و کمالات بڑی حد تک پائے جاتے ہیں۔

خاص بات یہ ہے کہ حمد و نعت کے لیے قلبی کیفیات کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے، آپ اپنی حمدوں اور مناجاتوں میں اپنی واقعی حیثیت کو ہمیشہ نگاہ میں رکھتے ہیں۔ حمد نگاری کے وقت خدا اور بندے کے فرق کو پوری طرح محسوس کرتے ہیں۔ آپ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم کیا اور ہمارا وجود کیا ہے۔ فکر و فن، لفظ و معنی، حیات و کائنات کے مسائل، ردیف و قافیہ اور فن عروض کے دیگر اہم معاملات، زمین و زماں اور کین و مکال سب اللہ تعالیٰ ہی کی تخلیق ہیں۔ وہ چاہے تو ان بہاروں کو نیست و نابود فرما دے۔ آپ اس واقعی سچائی کو بھی لکھ گئے ہیں ”ہے نور کی شاعری بھی اسی کی“۔

ہمیں احساس ہے کہ ہم نہ ادیب ہیں اور نہ شاعر، نقد و نظر بڑی شخصیات کے کارنامے ہوتے ہیں۔ اسے زیادہ سے زیادہ آپ مولویانہ جائزہ کہہ سکتے ہیں اور بس۔

محب گرامی وقار بلند پایہ شاعر استاذ القراء حضرت قاری اخلاق احمد نوابی عزیز بی دام ظلہ العالی اور محب مکرم کرم فرما حضرت مولانا محمد محبوب عزیز بی منجر ماہ نامہ اشرفیہ دام ظلہ العالی کے ہم دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں کہ ان حضرات کے مسلسل اصرار نے یہ چند صفحات لکھوالیے، اللہ تعالیٰ ان حضرات کو اپنے حبیب ﷺ کے طفیل بھرپور جزاؤں سے سرفراز فرمائے۔ علم، اقبال اور عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ گر قبول افتد زہے عز و شرف۔

عشق و عرفان سے لبریز نعت کے درتچے سے حمد کی اٹھتی خوشبو سے سرشار حضرت سید نور کے اس شعر پر قلم بند کرتے ہیں۔  
بیٹھ کر بزم تصور میں پس گنبد سبز  
میرے سب زخم جگر حمد خدا کرتے ہیں

**دنیا میں غربت اور بھوک کی صورت حال انڈیا کا نمبر 102:**  
صحت مند غذا کا انتخاب کرنا سیکھئے، ہر کھانے پر متوازن غذا کی اہمیت، صحت اور غذائیت کا صحت میں کردار، وٹامن سی، وٹامن ڈی، وٹامن ای، وٹامن کے وغیرہ وغیرہ کے اشتہارات دیکھنے میں تو بہت اچھے لگتے ہیں۔ لیکن جس بھوکے کو دوروٹی ہی نصیب نہیں وہ ان وٹامن کی اور اشتہار کی اہمیت و حقیقت کیا جانے؟

جی بی سی 17 اکتوبر 2019 کی رپورٹ کے مطابق: ”گلوبل ہنگر انڈیکس“ کے مطابق جنوبی ایشیا کے ممالک میں انڈیا ایشیا کی تیسری بڑی معیشت ہے لیکن جنوبی ایشیا میں وہ سب سے پیچھے ہے۔ انڈیا 2010 میں 95 ویں نمبر پر تھا اور اب 2019 میں 102 ویں نمبر پر ہے۔ تازہ ترین رپورٹ جاری کی گئی ہے جس کے مطابق 17 ممالک کی فہرست میں پاکستان گزشتہ سال کے مقابلے میں 12 ویں درجہ بہتری حاصل کر کے 94 ویں نمبر پر آ گیا ہے جبکہ انڈیا ایک درجہ بہتری حاصل کر کے 102 ویں نمبر پر ہے۔ جنوبی ایشیا کے دوسرے ممالک میں سری لنکا 66 ویں نمبر، نیپال 73 ویں نمبر، بنگلہ دیش 88 ویں اور افغانستان 108 ویں نمبر پر ہے۔ ”گلوبل انڈیکس“ میں انڈیا کا نیچے ہونے کا مطلب ہے کہ اس ملک کی آبادی کو ضروری خوراک نہیں مل رہی ہے، اسی لیے بچوں کی شرح اموات زیادہ ہے، بچوں میں وزن کم ہے اور وہ خوراک کی کمی کا شکار ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ خوراک کی جو اسکیمیں لائیں اس کو آخری آدمی مطلب نچلے سطح کے غریب تک پہنچانے کو ضروری بنائیں تاکہ سب بچ میں ہی بندر بانٹ ہو جائے۔

### بھوکے کو کھانا کھلانے کی فضیلت:

یوں تو سبھی مذاہب میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن مذہب اسلام کی تعلیم میں بھوکوں کو کھانا کھلانے پر بڑے اجر و ثواب کی بشارت دی گئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”مغفرت لازم کر دینے والی چیزوں میں سے بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا ہے“۔ (متدرک، کتاب التفسیر اطعام السبعان۔ ج:3/ص 372 الحدیث: 3990)

حبیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: خیار کم من اطعم و للطعام تم میں اچھا شخص وہ ہے جو کھانا کھلائے۔ (صحیح الترغیب، والترہیب: 948)

قرآن و حدیث میں بہت جگہ فضیلت آئی ہے۔ اللہ ہم سب کو بھوکوں کو کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین۔

☆☆☆☆☆



## گیارہویں شریف کے شرعی تقاضے

### مفتی توفیق احسن برکاتی

پھر شیخ محقق یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ مشائخ کے اعراس اور ان کے ایام وصال کی اصل کیا ہے؟ اس سلسلے میں وہ اپنے شیخ امام عبدالوہاب مفتی مکی رحمہ اللہ کا جواب نقل فرماتے ہیں کہ یہ مشائخ کرام کا طریقہ اور دستور چلا آ رہا ہے اور اس میں ان کے نیک مقاصد ہوتے ہیں۔

سراج الہند علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: ”حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ کے روضہ مبارک پر گیارہویں تاریخ کو بادشاہ وغیرہ شہر کے اکابر جمع ہوتے، نماز عصر کے بعد مغرب تک قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ کی مدح اور تعریف میں منقبت پڑھتے، مغرب کے بعد سجادہ نشین درمیان میں تشریف فرما ہوتے اور ان کے ارد گرد مریدین اور حلقہ بگوش بیٹھ کر ذکر جہر کرتے، اسی حالت میں بعض پر وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی، اس کے بعد طعام، شیرینی کی جو نیاز تیار کی ہوئی تقسیم کی جاتی اور نماز عشا پڑھ کر لوگ رخصت ہو جاتے۔“

(ملفوظات عزیزی، فارسی، مطبوعہ میرٹھ، یو پی، ص: 62)

اس موضوع پر ایک جامع اور نفیس کتاب مفتی سلامت اللہ نقش بندی رام پوری علیہ الرحمۃ نے لکھی ہے جس میں گیارہویں شریف کے جواز و استحسان اور اس کے متعلقات پر فاضل مصنف نے بیس آیتیں، چھیالیس حدیثیں، دو نقل اجماع اور پچاس روایات فقہ وغیرہ درج فرمائیں اور منکرین و معتزضین کے ہفوات و شکوک کا ردِ مبلغ فرمایا ہے، جو پہلی بار رمضان 1335ھ مطابق جولائی 1917ء میں مطبوعہ دبکہ سکندری رام پور سے طبع ہوئی، اس کا دوسرا ایڈیشن مفتی سید شاہد علی رام پوری کے ترجمے اور حاشیے کے ساتھ مکتبہ جمالی، رام پور سے ربیع الآخر 1408ھ مطابق نومبر 1987ء میں چھپا، اشاعت سوم ذوالحجہ 1417ھ مطابق اپریل 1997ء میں المجمع المصباحی مبارک پور اعظم گڑھ کے زیر اہتمام ہوئی، اس کا حرف آغاز استاذ گرامی صدر العلماء علامہ محمد احمد مصباحی دام ظلہ العالی (ناظم تعلیمات جامعہ اشرفیہ مبارک پور) نے تحریر کیا ہے اور اس پر نظر ثانی بھی کی ہے بلکہ ترجمہ شدہ مسودے

غوث اعظم، قطب زماں، تاجدار اولیا حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمۃ ہر قمری ماہ کی گیارہ تاریخ کو اپنے جد امجد سید الانبیا، خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایصالِ ثواب کی ایک محفل منعقد کرتے تھے۔ اس پاکیزہ بزم میں بطور خاص بغداد شہر اور آبادی سے دور ذکرِ خدا اور عبادتِ الہی میں مشغول ان بندگانِ خدا کو مدعو کیا جاتا کہ انسانی آبادی میں جن کا کوئی شناسانہ تھا اور نہ کسی دعوت میں انھیں مدعو کیا جاتا۔ پہلے اس بزم اعلیٰ اللہ میں ذکر و اذکار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا تذکرہ ہوتا، ان کی روح کو ایصالِ ثواب کیا جاتا اور پھر حاضرین ما حاضرین تناول کرتے۔

حضرت غوث اعظم علیہ الرحمۃ کے انتقال کے بعد بطور یادگار یہ تقریب ان کی ذات سے منسوب ہو گئی اور ان کا عرس بھی اسی تاریخ کو ہونے لگا، اسی لیے آج بھی گیارہویں شریف کی نسبت سے کی جانے والی محفلوں میں عموماً لنگر کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے اور اس کا ثواب حضرت غوث اعظم علیہ الرحمۃ کی روح کو پہنچایا جاتا ہے۔

”تحفۃ الابرار“ میں بحوالہ ”تکملہ ذکر الاصفیاء“ گیارہویں کی وجہ تسمیہ لکھی ہے کہ آپ ہر ماہ میں گیارہ تاریخ چاند کو عرس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اس وجہ سے گیارہویں آپ کے نام سے مشہور ہے۔ (تحفہ ابرار، ص: 29)

گیارہویں شریف ایصالِ ثواب کی ایک قسم ہے اور ایصالِ ثواب قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جس پر علماء و محققین نے بہت سی کتابیں اور رسالے تحریر کیے ہیں۔

شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب ”ما ثبت بالسنۃ“ میں لکھتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد شیخ عبدالوہاب مفتی مہاجر کلی 9 ربیع الثانی کو غوث اعظم کو عرس کرتے تھے، بے شک ہمارے ملک میں آج کل گیارہویں تاریخ مشہور ہے اور یہی تاریخ آپ کی ہندی اولاد و مشائخ میں متعارف ہے۔ (ما ثبت بالسنۃ از: شاہ عبدالحق محدث دہلوی، عربی، اردو مطبوعہ دہلی، ص: 167)

زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا۔

ذرا غور کریں! نقل و حمل کے ذرائع، ابلاغ و صحافت کے وسائل، جدید کرنسی کی مختلف صورتیں، معیشت و تجارت کے جدید اصول، بینکنگ سسٹم، قیام و طعام کی جدید سہولتیں، سفر و حضر کی آسان زندگی، یہ اور اس طرح کی بہت سی نئی چیزیں اور سامان انسانی زندگی کا لازمہ سمجھی جاتی ہیں اور بلا تفریق ملت ہر کوئی ان کا استعمال کرتا ہے، نیکیوں کے حصول کی تمنا، انسانیت کی بھلائی کی خاطر کی جانے والی کوششیں، معاشرتی فلاح و صلاح، اسلامی ثقافت کی برتری، مذہبی عظمت و امتیاز اور شریعت کی پاسداری کی ہر ممکن کوشش سے ہماری شریعت نے کہیں ممانعت نہیں کی ہے بلکہ ان امور کی ادائیگی پر حوصلہ افزائی کی ہے اور نیک کاموں کی انجام دہی پر ثواب و انعام کی بشارت بھی دی ہے۔

گیارہویں شریف کے موقع پر بھی اگر شرع مطہر کی بیان کردہ حدود کی رعایت کرتے ہوئے مسلمانوں کی بھلائی اور ان کی اصلاح کا کام کیا جائے، انہیں اصول شریعت سے آگاہ کیا جائے، انہیں مسائل فقہیہ سکھائے جائیں، ان کی دل جوئی اور غم خواری کی غرض سے دعوت عام کا انتظام کیا جائے تو یہ کچھ غلط نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس یادگار بزم کے تقدس کا خیال رکھیں اور خلاف شرع امور سے پاک و صاف رکھنے کی کوشش کریں، نیز کچھ نئی چیزیں بھی شامل کر لیں جیسے یتیم اور نادار بچوں کی شادی کے لیے اجتماعی کوشش کرنا، بیواؤں کو کپڑے اور اچھی چیزیں تحفہ دینا، غریب بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، دعوتوں میں بھی بطور خاص ان بندگان خدا کو بلانا جنہیں کوئی نہیں پوچھتا اور جو اپنی غربت اور مفلوک حالی کی بنا پر سماجی زندگی کی مزہ کا نہیں لے پاتے۔

اس موقع پر جو مذہبی پروگرام رکھ جائے اس میں بطور خاص حضرت غوث اعظم علیہ السلام کے کردار و عمل، ان کی دین پروری، حلم و بردباری، صبر و رضاء، احیاء دین، طلب علم کی راہ کی مشقتوں کو برداشت کرنا، ہر لمحہ سچ بولنا، غریبوں کی دل جوئی کرنا، اساتذہ کا احترام اور مشائخ کی تکریم کے عظیم ترین کارناموں کے تفصیلی ذکر پر مبنی تقریریں ہوں اور ایسے درد مند علما و خطباء مدعو کیے جائیں جنہوں نے ان احوال کا سنجیدہ مطالعہ کیا ہو اور سبق آموز گفتگو میں ماہر ہوں اس طرح یہ پروگرام مفید خاص و عام بنایا جاسکتا ہے۔ ☆☆☆

کانیا مبیضہ تیار کیا اور بہت سے مقامات کا ترجمہ اور توضیح بھی کی ہے۔ قارئین جانتے ہیں کہ دنیا کو چاند پر پہنچنے برسوں گزر چکے ہیں جس کے ثبوت میں چند تصاویر اور بلند دعوؤں کے سوا کچھ نہیں پیش ہوا لیکن پوری دنیا کو یقین دلایا گیا کہ فلاں ملک اور فلاں شخص نے چاند پر قدم رکھ دیا اور چاند کی تسخیر میں تاریخ ساز کامیابی حاصل کر لی ہے، اس انسانی عروج کی مختلف ذرائع ابلاغ سے خوب تشہیر کی گئی اور دنیا کو یقین کرنا پڑا، لیکن یہی دنیا اب تک ان سوالوں اور شبہ میں الجھی ہوئی ہے کہ کسی مذہبی شخصیت سے منسوب دعوت اور لنگر کا کھانا جائز ہے یا ناجائز؟ انٹرنیٹ پر آج بھی ایسے فتوے اپلوڈ کیے جاتے ہیں جو اس عمل کو ناجائز و حرام بتاتے ہیں اور مسلمانوں کو اس طرح کے اجتماعی یا انفرادی کاموں سے دور رہنے کا حکم دیا جاتا ہے، یہ بہت بڑا مذہبی فراڈ اور علمی خیانت ہے، اور آج کی دنیا میں سانس لینے والے کسی ذی شعور انسان سے اس طرح کے ہفتوات کی امید نہیں کی جاسکتی۔

گیارہویں شریف کی بیان کردہ حقیقت سے اندازہ ہوا کہ یہ خالص ذکر و فکر، یاد اہی، تلاوت قرآن مجید، ضرب ہو، دعوت عام و خاص اور دعائے مسلمین کی محفل ہے اور اجتماعی طور پر ایک متعین تاریخ میں یہ پاکیزہ کام ہوتا ہے جس کے جواز و استحسان پر شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے بلکہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، لاجپاروں، مفلسوں اور کس مپرسی میں جیسے والی زندگیوں کو اچھا کھانا کھلا کر جذبہ خیر خواہی کو بڑھا دیا ہے۔

اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی وسعت بھر اس رسم کو باقی رکھیں اور اس کا تقدس پامال نہ ہونے دیں، بلکہ اس دن کو اور یادگار بنانے کی کوشش کریں، لیکن یہ ضرور خیال رکھیں کہ ہمارا کوئی کام خلاف شرع نہ ہو، ورنہ ہم بھی مجرم ٹھہریں گے اور اس کام کے سبب ہماری مذہبی شناخت بھی مجروح ہوگی۔ آپ اس بات کی بالکل پروا نہ کریں کہ یہ کسی جدید رسم کی بنیاد ڈالنے جیسا عمل ہے کیوں کہ دنیا میں ہر آن بدلاؤ اور اضافہ ہوتا رہتا ہے، یہ دنیا مسلسل تغیر پذیر ہے یہ قول ڈاکٹر محمد اقبال لاہوری:

یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید  
کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون  
شریعت مطہرہ نے ہمیں نئی ایجادات اور جدید وسائل سے مستفیض ہونے سے منع نہیں فرمایا ہے بلکہ جائز حدود میں رہ کر ان کے استعمال کی اجازت دی ہے، اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس ترقی پذیر دنیا میں

## حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی کی چند تصانیف و ملفوظات

### مبارک حسین مصباحی

کروں اور ان معارف و حقائق کا بھی بیان کروں جو مشائخ روزگار اور اکابر دیدار سے سفر و حضر میں حضرت کو حاصل ہوئے تھے، نیز حضرت کے بعض خوارق جو دشمنوں اور حاسدوں کے مقابلہ میں صادر ہوئے تھے۔ خصوصاً وہ واقع جو شیخ حاجی چراغ ہند اور حضرت قدوۃ الکبریٰ کے درمیان پیش آئے تھے لکھوں۔ آپ کے خوارق عادات شہار سے زائد ہیں لیکن جو احوال و مقامات قابل ضبط تھے اور میری سمجھ میں آسکے ان کو قید کتابت میں لا کر مخدوم کے سامنے پیش کیا اور اول سے آخر تک ورق ورق ملاحظہ اقدس سے گزارا بلکہ اکثر الفاظ بھی وہی استعمال کیے جو حضرت کی زبان مبارک سے نکلتے تھے۔ بعض ماجرے جن کا تعلق صمدیت سے تھا اور عام فہم نہ تھے اور نیز وہ کل کلمات جو حضرت نے سید عبدالرزاق کو سجادہ پر بٹھاتے وقت فرمایا تھا، تحریر کرنے کی مجال نہ ہوئی۔ صاحب سجادہ کے بھی بعض خوارق و مقامات جو حضرت قدوۃ الکبریٰ کی رحلت کے بعد صادر ہوئے لطائف شریف کے ذیل میں درج کر دیے تاکہ ان کی خوشبو طالبان صادق اور مخلصان واثق تک پہنچے اور معلوم ہو کہ وہ گویا حضرت قدوۃ الکبریٰ کی بزم میں حاضر ہیں اور ان کے کلام سے مستفید ہو رہے ہیں۔“

(لطائف اشرفی، ص: 106، 107)

حضرت شیخ مرتب نے ترتیب شدہ لطائف اپنے شیخ قدوۃ الکبریٰ سید اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں پیش کیے اور حضرت نے از اول تا آخر ملاحظہ فرمایا اور اظہار مسرت فرمایا اس عمل کی برکت سے تمام لطائف مستند ہو گئے۔ اب ان میں کسی قبیل و قال کی کوئی گنجائش نہیں رہی، یہ لطائف مختلف ادوار اور متعدد اسفار کے دوران نوٹ کیے گئے۔ بیسوں برس کے فاصلے کے واقعات بعض لطائف میں یکجا فرما دیے ہیں، ترتیب کی آسانی کے لیے یہ مناسب بھی تھا، مثال کے طور پر دیکھیے حضرت کا سلطنت ترک فرمانا، بیعت کے لیے ہندوستان آنا، شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کی نماز جنازہ پڑھانا اور جون پور میں سلطان ابراہیم شرفی سے ملاقات ایک ہی صفحے میں جمع فرما

### لطائف اشرفی فی بیان طوائف صوفی:

یہ قریب ملفوظات اور ارشادات کا موقر مجموعہ ہے، اس کے مرتب سید اشرف جہانگیر سمنانی کے مرید و خلیفہ شیخ العارفین حضرت شیخ نظام یمنی ہیں۔ حضرت مخدوم سید اشرف سے آپ نے یمن میں 750ھ میں شرف بیعت حاصل کیا، اس کے بعد حضرت شیخ یمنی اپنے شیخ مخدوم سید اشرف جہانگیر کی معیت میں تیس برس تک رہے۔ یہ معیت سفر و حضر ہر جگہ رہی آپ ایک سچے خادم کی حیثیت سے لگے رہے۔ حضرت نظام یمنی کو عربی اور فارسی دونوں میں درک حاصل تھا۔ آپ ماشاء اللہ تعالیٰ ایچھے شاعر بھی تھے، متعدد اشعار لطائف اشرفی میں ملتے ہیں۔

واضح رہے کہ یہ تیس برس 750ھ سے 780ھ تک کا زمانہ ہے۔ یہ زمانہ زیادہ تبریزی اسفار میں گزرا اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ نے لطائف جمع کرنے کا عمل ختم کر دیا، اس وقت تک آپ نے جتنے لطائف جمع فرمائے، سب حضرت مخدوم سید اشرف کی نگاہ سے گزار دیے، اس کے بعد آپ نے مخدوم الآفاق سید عبدالرزاق نور العین کے وہ احوال جمع کیے جن کا تعلق ان دونوں بزرگوں [یعنی حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اور حضرت سید عبدالرزاق نور العین] سے تھا۔

حضرت شیخ نظام یمنی رحمۃ اللہ علیہ نے لطائف اشرفی کے دیباچہ میں جو تحریر کیا ہے، ذیل میں ہم اس کی تلخیص نقل کرتے ہیں:

”750ھ میں اس حقیر کو مقتداے اولیا حضرت قدوۃ الکبریٰ امیر سید اشرف جہانگیر سمنانی سے شرف بیعت حاصل ہوا۔ اور قریب 30 سال خدمت شریف میں حاضری اور ان کے خرمن سعادت سے خوشہ چینی نصیب ہوئی۔ بقدر قابلیت و استعداد معارف و عوارف حاصل ہوئے اور آثار ولایت کا مشاہدہ ہوا۔ جذب دل کے مطابق تعلقات دنیاوی سے دل سرد ہوا اور حضرت کے دیدار سے دم بدم مدارج میں ترقی ہوئی۔ اس اثنا میں عالم غیب سے میرے دل پر یہ القا ہوا کہ حضرت کے بعض انقاس نفسیہ اور الفاظ متبرکہ اور بعض احوال و مقامات و کرامات قلم بند

ذیل میں مقدمہ، ساٹھ لطائف اور خاتمہ کے عنوانات بلا تبصرہ درج کرتے ہیں:

### فہرست حصہ اول:

مقدمہ - علم اور کتبِ صوفیہ کے دیکھنے اور کلماتِ مشائخ کے سننے کے فوائد اور اس کے شرائط و آداب

لطیفہ 1 - توحید اور اس کے مراتب

لطیفہ 2 - ولی کی ولایت پہچاننا اور اس کے اقسام

لطیفہ 3 - معرفتِ عارف و معترف جاہل

لطیفہ 4 - صوفی و متصوف و ملامتی و فقیر، ان کی شناخت اور

اس گروہ کے اقسام اور اربابِ ولایت یعنی غوث و امامان و اوتاد و ابرار و

ابدال و انبیا کے ذکر اور پیچھے ہوئے اولیاء کی تشریح اور تصوف کیا چیز ہے اور صوفی کس کو کہتے ہیں۔

لطیفہ 5 - معجزہ و کرامت اور استدراج میں فرق اور کرامت

کے دلائل اور معراج شریف کا تذکرہ

لطیفہ 6 - شیخ ہونے کی اہلیت، اقتدا کی شرائط، مرشد و مرید

کے آداب جو چالیس اکابر کے مقرر کردہ آداب کا مجموعہ ہے اور مسئلہ توحید اور اس کا مطلب

لطیفہ 7 - اصطلاحاتِ تصوف

لطیفہ 8 - حقیقتِ معرفت، راہِ سلوک و سلسلہ تربیت و وجہ

خاص و حجبِ خلائی نورانی و انواعِ تجلیات و تلبیسِ ابلیس۔

لطیفہ 9 - شرائطِ تلقین، اذکارِ مختلفہ جو مشائخ میں جاری و

ساری رہے ہیں، فضیلتِ ذکرِ جلی بر خفی

لطیفہ 10 - تفکر و مراقبہ، جمع و تفرقہ کے شرائط

لطیفہ 11 - مشاہدہ و وصول و رویتِ صوفیہ و مومنان و یقین

لطیفہ 12 - صوف و خرقة و غیرہ سے لباسِ مشائخ کے اقسام

اور ہر ایک کے معنی اور مرید و مراد کے شرائط اور مقرض و طاقیہ کا تذکرہ۔

لطیفہ 13 - حلق و قصر یعنی بال منڈانا اور کترنا۔

لطیفہ 14 - مشائخ کے خانوادوں کی ابتدا جو اصل میں چودہ ہیں

لطیفہ 15 - سلسلہ حضرت قدوۃ الکبریٰ اور سلسلہ حضرت

نور العین اور سلف و خلف کے مشائخ کا بیان اور ان کے خلفا اور ہر

ایک کی تاریخِ وفات اور اعراس بزرگان اور متعدد اکابر سے فضائل

حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے۔

دیے، حالانکہ ان واقعات میں بیسیوں برس کا فاصلہ ہے۔ واضح رہے کہ حضرت مرتب نے توارخ و سنین کا اہتمام نہیں فرمایا ہے، اس لیے بعض مواقع پر قارئین کو کچھ الجھنیں پیش آجاتی ہیں۔

حضرت شیخ نظام یمنی نے بعض احوال اور خوارق کے لکھنے سے احتیاط برتی ہے، ”رموز مملکت خویش خسرواں دانند“۔ حضرت شیخ نظام

یمنی نے اس میں مقدمہ، ساٹھ لطائف اور خاتمہ جمع فرمایا ہے۔ زبان فارسی، بیان عمدہ اور فصیح ہے، اسلوب رواں دواں ہے، معارفِ تصوف

میں بڑی گہرائیاں اور وسعتیں ہوتی ہیں۔ ماضی میں تصوف کی بنیادی کتابیں باضابطہ داخل درس ہوتی تھیں۔ اسرارِ تصوف اگرچہ عام قارئین کی دسترس

سے باہر ہیں لیکن اگر کوئی شیخ تصوف اور عارفِ کامل تفہیم فرماتا ہے تو بہت کچھ سمجھ میں آجاتا ہے۔ ہم اس سلسلہ میں بعد میں گفتگو کریں گے۔ لطائف

اشرفی میں مکشوفات و کرامات ہیں، کلمات کی تفسیر اور حقائق و معارف ہیں، اسرارِ کلامِ ربانی اور احادیثِ نبویہ ہیں، صحابہ کبار اور اہل بیت کرام کے

اقوال اور معمولات ہیں، مشائخ کبار کی صوفیانہ سوانح اور ان کے معمولات کے تابندہ نقوش ہیں، شریعت، طریقت اور حقیقت کے معارف اور

مدارج ہیں۔ آدابِ معیشت اور رموزِ سلطنت ہیں وغیرہ وغیرہ۔

مخدوم الآفاق حضرت سید شاہ عبدالرزاق نور العین رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں:

”جامع مقامات اشرفیہ غوثیہ ابو الفضائل

حضرت نظام الدین یمنی کو نسبت و ارادت حضرت

قدوۃ الکبریٰ سے ہے۔ تصانیف کثیرہ اور تالیفات

کبیرہ ان سے منسوب ہیں۔ کنز الاسرار، تفسیر کوکب اور

عمل تکسیر وغیرہ۔ حضرت قدوۃ الکبریٰ کے مقامات

و حقائقِ تطہیر فرمائے حضرت شاہ وجیہ الدین امبٹھوی

بحرِ ذخار میں فرماتے ہیں: ”وہ جامع کمالات اشرف،

عالم اکبر اثبات و نفی، اپنے پیر کے محرم اسرار تھے۔“

حضرت نظام الدین غریب یمنی حضور

سید اشرف کی بارگاہ میں آنے سے قبل لطائف کی

ابتداء میں فرماتے ہیں۔

وساوس نفسانی اور ہجوم وساوس شیطانی

میں آلودہ تھا۔

(لطائف اشرفی اول مطبوعہ مخدوم اشرف اکیڈمی کچھوچھ شریف، ص: 19)

- لطیفہ 16- مشائخ کرام کے کلمات شطحیات کے معانی اور اس جیسے کلام کی تشریح۔
- لطیفہ 17- آداب صحبت و زیارت مشائخ و قبور و جبین سائی۔
- لطیفہ 18- معانی زلف و خال وغیرہ
- لطیفہ 19- درمیان معانی ابیات متفرقہ جو جملات متصوفہ کے متعلق فضلا سے صادر ہوئے
- لطیفہ 20- سماع و استماع مزامیر
- فہرست حصہ دوم:
- لطیفہ 21- مسئلہ جبر و اختیار و قضا و قدر و خیر و شر اور بعض عقائد صوفیہ۔
- لطیفہ 22- حضرت قدوۃ الکبریٰ کا تحت سلطنت کا ترک کرنا اور سریر مملکت سے منہ موڑنا، سفر اختیار کرنا اور بعض مشائخ عصر سے راہ میں ملاقات کرنا اور خصوصیت کے ساتھ حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت سے شرف ملاقات ہونا اور حضرت یحییٰ منیری کے جنازہ میں پہنچنا، وہاں سے حضرت شیخ علاء الدین پنڈوی کے حضور میں باریاب ہونا اور تمام مقاصد دلی کو حاصل فرمانا اور شیخ کا اپنے تمام مقامات عالیہ کو ان کے حوالے کرنا اور خطاب جہانگیری سے سرفراز فرمانا۔
- لطیفہ 23- حضرت قدوۃ الکبریٰ کا تعین مقام اور ان کی ظفر آباد تشریف آوری اور بعض پے پے کرامتوں کا صدور اور حضرت شیخ کبیر سرور پوری کی ارادت۔
- لطیفہ 24- امر او سلاطین اور فقرا و مساکین کا ملاقات کرنا اور ان کا مسند عالی سیف خان کے مناقب بیان کرنا۔
- لطیفہ 25- ذکر ایمان و دلائل اثبات صالح و وحدت صالح اور اس کی ازلیت و ابدیت اور اصول شریعت و طریقت۔
- لطیفہ 26- ارباب نظر و برہان و اصحاب کشف و اعیان اور ان دونوں گروہ کی حیرت اور آخری گروہ کے عقائد اور شریعت و طریقت کی بحث اور ان دونوں کا ایک ہونا۔
- لطیفہ 27- دلائل وحدت وجود، بعض مشائخ کا وحدت وجود میں اختلاف اور اقوال مختلفہ کے توفیق میں۔
- لطیفہ 28- بیان توبہ
- لطیفہ 29- معرفت نماز
- لطیفہ 30- معرفت روزہ
- لطیفہ 31- بیان زکوٰۃ
- لطیفہ 32- بیان حج و جہاد
- لطیفہ 33- اقسام امت کی فرقہ بندی اور انسانی مراتب کی ماہیت اور انسان صوری و معنوی کا تذکرہ
- لطیفہ 34- فوائد سفر اور اس کے شرائط
- لطیفہ 35- حضرت قدوۃ الکبریٰ کا دوران سفر عجائب روزگار کا مشاہدہ فرمانا اور کوہستان میں سن رسیدہ بزرگوں سے مقامات عالیہ حاصل کرنا۔
- لطیفہ 36- عقل و شرب کے طریقے اور بعض ماکولات و مشروبات کے فوائد
- لطیفہ 37- شرائط اعتکاف و عزلت و خلقت، تجرید و تفریس
- لطیفہ 38- وظائف صبح و شام، صلوٰۃ خمسہ اسلام، نوافل، ادعیہ مشہورہ، ایام متبرکہ، صیام صوفیہ۔
- لطیفہ 39- عشق اور مراتب عشق
- لطیفہ 40- زہد و تقویٰ
- لطیفہ 41- توکل و کسب و رضا و خوف و رجاء کا ذکر
- لطیفہ 42- تعبیر خواب
- لطیفہ 43- بخل و سخاوت و رزق و ذخیرہ
- لطیفہ 44- مجاہدہ و ریاضت اور سعادت و شقاوت
- لطیفہ 45- رسوم خلق و مزاج مستحسن
- لطیفہ 46- تذکیر اور وعظ و حسن خلق و غضب و شفقت و معاملہ۔
- لطیفہ 47- مومن و مسلم
- لطیفہ 48- امر معروف و نہی منکر و اثرہ مختلف فیہا
- لطیفہ 49- امامت کی شناخت و بیان توہا و تہر و ترک علائق و عوائق
- لطیفہ 50- معرفت نفس و روح و قلب اور قبض ارواح، ملائک کا ظہور اور خواہش موت
- لطیفہ 51- علم و طبل و زنبیل گردانی
- لطیفہ 52- حضرت رسالت پناہ ﷺ کا نسب اور ان کی سیرت مقدسہ اور ان کی سیرت مقدسہ اور کتب انساب سے نسب سادات از اخفاد و اولاد کی شرح
- لطیفہ 53- خلفائے راشدین و بعض صحابہ و تابعین و ائمہ اثنا عشر۔

رسالہ تالیف فرمایا تھا، اس میں صحابہ رسول ﷺ میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل کا ذرا زیادہ ذکر تھا، جس سے علمائے ظاہر کو غلط گمان ہو رہا تھا، حیلہ جو اور مجادلہ پسند لوگوں کے دل و دماغ میں تفضیلت کی بو محسوس ہو رہی تھی، جب حضرت قدوۃ الکبریٰ انکال سے حضرت قدوۃ الابرار، زبده الاحرار، علاء الدین والدین سے ملاقات کر کے واپس آرہے تھے، اسی سفر میں آپ نے محمد آباد گوہنہ میں نزول اجلال فرمایا، آپ کے ہمراہ علانی فقرا اور بلند مرتبہ حضرات کی جماعت نے قصبہ کے درمیان ایک مفرح قلب باغ میں قیام فرمایا، کچھ علما جو لباس فصاحت سے آراستہ اور کچھ فضلا جو حلقہ بلاغت سے پیراستہ تھے، حضرت قدوۃ الکبریٰ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔

معارف و دقائق کی باتیں ہوئی، عوارف و حقائق پر گفتگو ہوئی، اس کے بعد صحابہ کرام کے مناقب پر بات ہونے لگی، حضرت قدوۃ الکبریٰ نے اپنی درافشاں زبان سے وعظ فرمایا کہ اس مجلس پاک اور محفل مبارک کے حاضرین اکابر داد و تحسین پر مجبور ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد عقائد کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ فضائل صحابہ میں میں نے ایک رسالہ بھی مرتب کیا ہے، اگر ہمارے احباب اپنی نگاہوں کے انوار سے اس کتاب کو دیکھ کر غور کریں تو عجب نہیں کہ مکمل دلچسپی سے اس کا مطالعہ مکمل کریں گے، مولانا حسین صاحب (کتاب دار) حضرت کی کتابوں کے محافظ، نے حضرت کا اشارہ پا کر اس رسالہ کو ان کے ہاتھوں میں دے دیا۔

قاضی ظہیر الدین صاحب اور علما کی ایک جماعت نے رسالہ کے ابتدائی صفحات کا مطالعہ کیا، بہت زیادہ تعریف کی، قاضی احمد جو ان حاضرین میں سے ایک تھا وہ حضرت علی کے فضائل کو لے کر اعتراض کرنے لگا اور عجیب جھگڑا کھڑا کر دیا، ایک دوسرے کے سامنے دلیلیں پیش کی گئیں، بات بہت لمبی ہو گئی، علما کے مختلف اقوال پیش کئے گئے۔

علما بھی قاضی احمد کے ساتھ ہو گئے، سب بحث کرنے لگے، بحث یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت کو غلط قرار دینے کے لیے لوگوں نے ایک استفتا تحریر کیا اور اس پر اتفاق کیا کہ آئندہ جمعہ کو اس مسئلے میں اس استفتا کو لے کر حضرت سے بحث و مباحثہ کریں گے، جب یہ خبر حضرت کو ملی، آپ کو تردد ہوا، جب جمعہ کا دن آیا تو اس قدر بارش ہوئی کہ طوفان نوح آ گیا، قصبہ کے گھروں میں سیلاب آ گیا، اس بنا پر کوئی شخص جامع مسجد میں نہ آسکا بلکہ ان کی جماعت میں اختلاف ہو گیا۔

سید خان جو کہ نہایت ہی عاقل و فاضل تھے انہیں خواب

لطیفہ 54۔ بعض شعرا کا ذکر جو مشرب صوفیہ سے آگاہ تھے۔  
لطیفہ 55۔ حضرت قدوۃ الکبریٰ سے بعض خوارق کا صدور بہ نسبت بعض اشخاص

لطیفہ 56۔ تقویٰ مقام و حوالہ ولایت اسلام بہ سید عبد الرزاق اور ان کی فرزندگی میں قبولیت

لطیفہ 57۔ حدود اودھ، قصبہ جائس، قصبہ ردولی اور اس کے نواح میں حضرت قدوۃ الکبریٰ کی تشریف آوری اور وہاں ظہور کرامت اور مسند عالی سیف خان، قاضی رفیع الدین اور شیخ شمس الدین صدیقی اودھی کا معتقد ہونا۔

لطیفہ 58۔ دعائیں، اسمائے اعظم، علم تکسیر، توریت کے سورہ فاتحہ یعنی دعائے سبح اور افسوس و تعویذ کے بعض دیگر فوائد

لطیفہ 59۔ نزول فیض الہی و فضل لانتہائی، احضار ملائکہ و مردانِ غیب اور بعض اولیاء برائے تجہیز و تکفین حضرت قدوۃ الکبریٰ

لطیفہ 60۔ بعض محبت آئین کلمات کا صدور بہ نسبت قدوۃ الآفاق سید عبد الرزاق، ان کی اولاد و افتاد اور بعض خلفائے اکبر اور لطف عامہ نسبت فرزند ان و معتقدان و مریدان و مخلصان تام۔

خاتمہ اخلاق اور حکایات صوفیان۔  
حضرت شیخ نظام بمبئی نے جو آخر میں تحریر فرمایا ہے اس کی تلخیص ذیل میں پیش کرتے ہیں۔

”خدا میری سعی کو مشکور کرے اور راہ تحقیق میں خطا و لغزش سے محفوظ رکھے، میں ناظرین سے امید کرتا ہوں کہ وہ اس کتاب سے مستفیض ہوں تو مولف کے حق میں دعائے خیر کریں اور اس کتاب کے لکھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اصلاح کریں، حق تعالیٰ جزاے خیر دے اس شخص کو جو اس کتاب کے مضامین پر غور کرے اور اس میں خطا ہو تو معاف کرے۔“  
طائف اشرفی نے بیان طوائف صوفی دینی علوم اور دنیاوی معاملات کا بحر ناپیدا کنار ہے، معارف روحانی اور سلاسل تصوف کا لہریں لیتا ہوا سمندر ہے، ہم نے فہرست تو بلا تبصرہ پیش کر دی ہے، اب حضرت غوث العالم کی علمی اور روحانی گہرائیوں سے متعلق چند طائف کے اقتباسات درج کرتے ہیں:

صحابہ کالمیلین کے مناقب اور خلفائے راشدین کے مراتب:  
حضرت قدوۃ الکبریٰ (مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی) نے صحابہ کالمیلین کے مناقب اور خلفائے راشدین کے مراتب پر ایک

کوئی اعتراض والی بات نہیں کیوں کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کی تعریف میں مبالغہ کرے، تو اس میں حرج نہیں، انہوں نے کہا کہ اپنے دعوے پر دلیل پیش کریں، سید خان نے کہا، اچھی بات ہے، جامع العلوم میں ایک حدیث شریف منقول ہے۔ النَّاسُ أَبْنَاءُ الدُّنْيَا وَلَا يُلَاحِظُونَ الرَّجُلَ عَلَىٰ حُبِّ أَبِيهِ بِمَدِّ جِهَمًا۔ (لوگ دنیا دار ہیں اور کسی شخص پر والدین سے محبت یا مدح سرائی کی بنا پر ملامت نہیں کی جائے گی۔)

مختص اس روایت کو سن کر تمام معترضین دم بخود اور ذلیل ہو گئے جیسا کہ ارشاد الہی ہے: قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ آخر کار ہر ایک نے عذر پیش کیا، مگر اب عذر خواہی سے کیا فائدہ ہوتا، حضرت قدوۃ الکبر ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سب کو نبی کریم اور آپ کی آل اولاد کے صدقہ کمالیت دارین سے نوازے اور معترضین کو اعتراض کا موقع نہ دے، ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، چنانچہ ہر ایک معترض پریشان اور ظلم و ستم کا شکار ہوا۔ شاعر سنیذین عارف نے بید رنگ

در انداختن در دہان نہنگ

ترجمہ: کسی سچے عارف سے منازعت، مگر مجھ کے منہ میں ہاتھ ڈالنا ہے۔

(مقدمہ لطائف اشرفی)

### رسالہ غوشیہ کی ترتیب:

حضرت قدوۃ الکبر فرماتے ہیں:

”اولیاء کا دوست اور بہی خواہ انہیں میں سے ایک ہے۔“

ابو جعفر سیلابی [صدیق لانی] نے فرمایا کہ رسول کریم ﷺ کو میں نے خواب میں دیکھا، آپ مسند صدارت پر جلوہ افروز تھے، تمام مشائخ آپ کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ نبی کریم ﷺ ان (ابو جعفر) کی طرف سے چہرہ پھیرے ہوئے تھے، آسمان کا دروازہ کھلا، فرشتے نیچے اترا، سنہری پلیٹ اور چاندی کا لوٹا ہاتھ میں لے کر حضور کے سامنے رکھ دیا، سب نے ہاتھ دھو لیے، جب میری باری آئی تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ پلیٹ اس کے سامنے سے اٹھا لو، کیوں کہ یہ اس جماعت سے نہیں، فرشتے نے اٹھا لیا اور چلا گیا، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ، اگرچہ میں ان میں سے نہیں ہوں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ میں ان کو دوست رکھتا ہوں، حضور ﷺ نے فرمایا: جو ان کو دوست رکھتا ہے اس کا شمار انہیں میں ہوتا ہے، پلیٹ پھر سے لائی گئی، پھر میں نے ہاتھ دھلے، حضور نے مجھے دیکھا اور مسکرایا اور فرمایا کہ جو ہم سے دوستی رکھے گا ہمارے ساتھ ہوگا۔

ابو جعفر فرماتے ہیں کہ اس وقت میں جماعت صوفیاء کی صحبت

دکھایا گیا کہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر کو جیسا کہ تم سمجھ رہے ہو، ویسے نہیں ہیں، تمہارے ہاتھوں میں ان سے مقابلہ کی طاقت نہیں ہے، اگر دونوں جہانوں کی خیریت و دولت مطلوب ہے تو ان سے معذرت اور توبہ کرو، جب صبح کے وقت خواب سے بیدار ہوئے، تو اپنی اہلیہ سے خواب بیان کرنا چاہا، اتفاق یہ کہ ان کی اہلیہ نے بھی وہی خواب بیان کرنا شروع کر دیا کہ مجھ کو بھی یہی خواب نظر آیا ہے، میں کہنا ہی چاہ رہی تھی کہ آپ نے پہل کر دی، اب بہتر یہ ہے کہ حضرت کے پاس جا کر معذرت کر لو، ذلت میں پڑنا نقل مندی کا تقاضا نہیں ہے۔ شاعر

نباہد پسندیدگاں را پسند

کہ در پیشہ شیر خیمہ زندگی

ترجمہ: پسندیدہ لوگوں کو یہ پسند نہیں کہ شیر کی کچھار میں خیمہ لگائیں۔

بیوی نے کہا کہ حضرت قدوۃ الکبر کی جماعت میں کھڑے ہو جاؤ، نیز آپ کی اولاد بھی نہیں ہے، حضرت سے درخواست کرو، ہو سکتا ہے کہ اس خواب کی تعبیر میں یہ عظیم دولت نصیب ہو جائے جسے ہم نے جلد ہی دیکھا تھا کہ ایک عظیم جامع فضائل بزرگ مشرق سے مانند آفتاب نمودار ہوئے، میں نے ان کی صحبت اختیار کی تو انہوں نے مجھے چار آموں سے سرفراز فرمایا۔

بیوی کی بات حضرت سید خان کے دل میں بیٹھ گئی، تیزی کے ساتھ حضرت کی چوکھٹ بوسی کے لیے چل پڑے، حضرت کی صحبت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: حضور قلب مبارک میں کچھ تردد نہ فرمائیں، ان معترضین کے اعتراضات کے جوابات میں دیتا ہوں، حضرت کے رخ مبارک پر نہایت خوشی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، فرمایا: کہ میرے عزیز! فقیر نے بھی سچ جواب دے دیا ہے، مگر نا انصافی اور ہٹ دھرمی کی بنا پر وہ اسے قبول نہیں کر رہے ہیں، حضرت سید خان نے عرض کیا: واقعی معاملہ ایسا ہی ہے، مگر یہ مخلص معتقد ایک دوسری تدبیر اپنانا چاہتا ہے، حضرت قدوۃ الکبر نے خوشی سے ان کو چار آم دے دیئے اور فرمایا تمہارے گھر میں چار اولاد پیدا ہوں گی، ایک طاہر دوسرا مطہر تیسرا طیب اور چوتھا محمد کے نام سے موسوم ہوگا، ان میں سے ہر ایک عالم و فاضل ہوگا اور یہ سب معاصرین پر سبقت لے جائیں گے۔

اس کے دوسرے جمعہ کو تمام علمائے ظاہر حاضر خدمت ہوئے، استفتا پیش کیا، سید خان نے استفتا ہاتھ میں لے کر پڑھا اور کہا کہ آپ سب کا اعتراض اس پر ہے کہ حضرت قدوۃ الکبر انے حضرت علی کے فضائل زیادہ بیان کر دیے ہیں؟ اس پر سید خان نے کہا: ہاں: یہ کام اگر کوئی غیر سید کرتا تو قابل اعتراض تھا، مگر ایک سید ایسا کرے یہ

پردل کے کان سے سنا ہوگا تو اس کے اندر علم و معرفت کی بیج پڑ جائے گی۔ اور اگر اس پر فی الحال کوئی بات مشتبہ ہوگئی، تو بھی اس کے لیے یک گونہ فضیلت ثابت ہوگی۔

اسی درمیان حضرت نے فرمایا کہ چونکہ مشائخ کے کلمات حسنہ کشف و وجدان سے مستنبط اور اس جماعت کے ذوق و معرفت سے منتخب ہوتے ہیں، اس لیے بہر حال ان کلمات لطیفہ اور مقامات شریفہ کا منکر محرومی کے جہنم کی گہرائی میں جا پڑتا ہے اور رسوائی کے کنویں کی تہ میں پہنچ جاتا ہے، جیسا کہ حضرت مولوی فرماتے ہیں۔ مثنوی

چوں خدا خواہد کہ پردہ کس درد  
میش اندر طعنہ پاکان برد  
ور خدا خواہد کہ پوشند عیب کس  
کم زند در عیب اہل دل نفس  
نکتہ چوں تیغ فولاد است تیز  
گرنداری تو سپر واپس گریز  
پیش این الماس بے اسپر میا  
کز بریدن تیغ را نبود حیا

ترجمہ: ☆ جب اللہ تعالیٰ کسی کی پردہ دری کرنا چاہتا ہے، تو اس کے اندر پاکان امت پر طعن کی جرات پیدا کر دیتا ہے۔

☆ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کی عیب پوشی فرمانا چاہتا ہے تو اس کے نفس کو اہل دل کی عیب جوئی سے دور کر دیتا ہے۔

☆ بہت سارے نکات ہیں جو فولاد کی طرح تیز ہیں، اگر تیرے پاس ڈھال نہیں تو سکوت اختیار کر

☆ بغیر ڈھال کے اس تلوار کے سامنے مت آنا، کیوں کہ تلوار کو کاٹنے میں کوئی شرم نہیں محسوس ہوتی۔

حضرت قدوۃ الکبر افرماتے ہیں کہ جس شخص کو توحید افعال کی تحقیق اور توحید صفات سے آشنائی ہوگی، وہ جانتا ہوگا کہ جماعت صوفیا کے اقوال و احوال میں کیا حکمت پنہاں ہوتی ہے، چاہیے کہ ان مشائخ کی باتوں پر حرف زنی نہ کرے۔ شعر

بر حرف ہیچ کس منہ انگشت اعتراض  
کاں کلک صنع نیست کہ خطی خطا کشد

ترجمہ: کسی بھی اللہ والے کی بات پر اعتراض مت کر کہ یہ وہ قلم نہیں ہیں جو غلط لکیر کھینچتے ہیں۔ (مقدمہ لطائف اشرفی) (جاری)

☆☆☆☆☆

میں نہیں رہتا تھا۔

حضرت ابراہیم اوہم نے فرمایا کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ہاتھ میں قلم لیے ہوئے کچھ لکھ رہا تھا، میں نے پوچھا تھا : کیا لکھ رہے ہو؟ اس نے کہا: اللہ کے دوستوں کا نام، میں نے کہا میرا بھی لکھ دو، اس نے کہا: نہیں ہو سکتا، میں نے کہا: اگرچہ میں نہ تو اولیائے حق میں سے ہوں نہ ان کا دوست، لیکن اللہ کے لیوں کے دوستوں کا دوست ہوں، اتنے میں ایک دوسرا فرشتہ پہنچا، اور اس فرشتے سے کہا کہ ان کا نام بھی لکھ لو، اللہ کے لیوں کے دوستوں کا دوست بھی میرا دوست ہے۔

حضرت قدوۃ الکبر افرماتے ہیں کہ اس بلند مرتبہ جماعت کی تصنیفات اور جماعت صوفیہ کی تالیفات عطاے ربانی اور عنایت لا متناہی ہیں، جس وقت اس فقیر نے شیخ عبدالرزاق کاشانی سے کاشان میں ملاقات کا شرف حاصل کیا، حضرت شیخ اکبر کے بارے میں شیخ نے تقریباً ان الفاظ میں یہ روایت نقل کی کہ بغداد کے ایک بڑے شیخ نے شیخ اکبر کے مناقب میں ایک کتاب تالیف کی، اس میں یہ ذکر ہے کہ شیخ اکبر کی تصنیفات کی تعداد پانچ سو سے زائد ہیں، حضرت شیخ اکبر نے خود بعض احباب کے التماس پر اپنی کتابوں کی ایک فہرست تیار فرمائی تھی، جس میں حضرت شیخ اکبر کی ڈھائی سو کتابوں کا نام ذکر کیا گیا ہے، اکثر تصوف میں اور بعض دیگر فنون سے متعلق ہیں، اس رسالہ کے خطبہ میں حضرت نے ذکر فرمایا ہے کہ ان کتابوں کی تصنیف کے پیچھے وہ مقصد کارفرمانہ نہیں تھا جو عام مصنفین کا ہوتا ہے بلکہ بعض تصنیفات کا داعیہ یہ تھا کہ حق تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر کوئی امر وارد ہوتا، مجھے لگتا کہ یہ میری ہستی کو جلا ڈالے گا، اس لئے بعض واردات کو میں حیثہ تحریر میں لے آتا اور بعض کتابوں کی تصنیف کا سبب یہ ہوتا کہ کبھی خواب تو کبھی بیداری میں حق تعالیٰ کی بارگاہ سے حالت کشف میں مجھے اس کا حکم دیا جاتا۔

حضرت قدوۃ الکبر افرماتے ہیں کہ ”رسالہ غوشیہ“ کی تالیف کے وقت مجھ کو بھی عطیات سے معمور اشارہ اور شوق انگیز بشارت ملی تھی اور اس کتاب کی تالیف کا خیال میرے ذہن میں (من جانب اللہ) پیدا کیا گیا تھا، حضرت نور العین بھی اس ارشاد کے وقت حاضر مجلس تھے اور حضرت قدوۃ الکبر کے الفاظ شریفہ اور کلمات لطیفہ کی تالیف کا باعث بھی یہی بشارت تھی اور اس پاکیزہ لطائف آمیز کلام اور ظرافت آمیز کلمات کی تالیف کے لئے الہام ہوا تھا۔

حضرت مخدوم اشرف نے فرمایا:

مجھے اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے کہ جس نے میرے کلام کو قبول کیا ہوگا اور معرفت و وجدان کے ساتھ یقین و اطاعت کے طور



## حضرت ابو علی حسن بصری رضی اللہ عنہ

[ولادت: 21ھ — وصال: 110ھ]

### محمد اعظم مصباحی مبارک پوری

اور مدینہ منورہ میں صحابہ کرام سے دینی علوم حاصل کیے، آپ نے ان کی قربت سے نبی کریم ﷺ کی بالواسطہ صحبت کا فیض حاصل کیا اور انھیں صحابہ کرام حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت انس بن مالک، حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین سے فیض پایا اور دین کا ظاہری و باطنی تمام علم حاصل کیا۔ ۱۴ سال کی عمر میں بصرہ گئے اور وہاں کے اہل علم سے قرآن و حدیث کا علم سیکھا۔

**بیعت و خلافت:** حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ حضرت علی مرتضیٰ نے بیعت سے شرف یاب ہوئے اور ان سے خرقہ فقریا، حضرت علی مرتضیٰ نے آپ کو وہ خرقہ خاص مع چہار تری عنایت فرمایا، جو انھیں حضور سید عالم ﷺ سے ملا تھا اور ظاہری و باطنی علوم عطا کر کے اپنی خلافت سے بھی سرفراز فرمایا۔

**تجارت اور کسب معاش:** حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ ابتدائی دور میں جواہرات کی تجارت کرتے تھے لیکن پھر دنیا سے بے رغبت ہو کر فکر آخرت میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔

**خشیت ربانی:** حضرت حسن بصری کے تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ ہمیشہ آپ پر غم کا غلبہ رہتا اور کبھی نہیں ہنستے تھے، گریہ و زاری میں مصروف رہا کرتے، آپ کے لبوں پر کسی نے مسکراہٹ نہیں دیکھی، آپ ہمیشہ اس طرح ڈرے سہمے رستے گویا آپ کو سزائے موت سنادی گئی ہو، کوشش سے گریہ و زاری کے سبب آنکھوں میں گڑھے پڑ گئے تھے۔

**علمی مقام:** حضرت امام حسن بصری تفسیر و حدیث میں امام تسلیم کیے جاتے ہیں۔ علم ظاہر و باطن کے علاوہ آپ زہد و ریاضت میں بھی کامل تھے علامہ ابن سعد لکھتے ہیں: کان الحسن جامعاً عالماً رفیعاً فقیہاً ماموناً عابداً ناکسا کبیر العلم فصیحاً جمیلاً وسفیاً۔

حضرت حسن بصری جامع کمالات عالم تھے، بلند مرتبہ فقیہ اور مامون ہونے کے ساتھ ساتھ عابد و زاہد، بڑے عالم دین، صاحب فصاحت و بلاغت اور حسن و جمال کے پیکر تھے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری مشہور عالم تھے، ان کی جلالت شان پر سب کا اتفاق ہے۔

**مجلس و عظ:** حضرت حسن بصری عوام کو دینی تعلیمات سے آگاہ کرنے اور انھیں تقویٰ و پرہیزگاری کا درس دینے کے لیے ہفتے میں ایک دن

سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر تابعی بزرگ ہیں۔ آپ نے اس دور میں آنکھ کھولی جو خیر القرون قرنی ثم الذین یلومہم کا زمانہ برکت نشان تھا، بہت سے جلیل القدر کبار صحابہ کرام سے شرف ملاقات حاصل تھا، ایک روایت کے مطابق 130 صحابہ کرام کی زیارت سے مشرف ہوئے، ان میں سے 70 بدری صحابہ کرام ہیں۔ بیت نبوی میں اپنے ابتدائی ایام گزارے اور سرچشمہ فیض و حکمت والے گھر سے خوب فیض یابی کی، امام المحدثین کے لقب سے ملقب ہوئے۔ آپ علم شریعت و طریقت دونوں کے جامع تھے۔

**نام اور کنیت:** آپ کا اسم گرامی حسن، کنیت ابو علی، ابو سعید، ابو محمد اور ابو نصر تھی۔ والد کا نام حسب روایت یسار تھا اور وہ حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ والدہ محترمہ کا نام خیرہ تھا اور وہ حضرت ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیت تھیں۔

**ولادت باسعادت:** حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کی ولادت خلیفہ دوم فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے آخری حصہ 21ھ میں مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ ولادت کے بعد آپ کو امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں لایا گیا تو آپ نے حضرت حسن بصری کی تحنیک فرمائی اور ”حسن“ نام تجویز فرمایا۔

آپ ان خوش نصیب بچوں میں ہیں جنہیں بیت نبوی میں آنے جانے کی سعادت حاصل تھی۔ اچھی اوپر گزرا کہ آپ کی والدہ ماجدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خادمہ تھیں، اس وجہ سے آپ کو ام المومنین کی تربیت سے حصہ ملا۔ جب آپ کی والدہ کسی کام میں مصروف ہو جاتیں اور آپ رونے لگتے تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو چپ کرانے کے لیے اپنے سینے سے لگا لیتیں اور دودھ پلاتیں، اس لحاظ سے آپ ام المومنین کے رضاعی بیٹے ہوئے۔ آپ نے حضرت ام سلمہ کے باہرکت ہاتھوں میں رسول اللہ کے گھر پرورش پائی، تو لوگ اس دور میں کہنے لگے کہ حسن بصری سے علوم و معارف کے جو دریا پھوٹے ہیں وہ درحقیقت اسی دودھ کا فیض ہے جو آپ نے ام المومنین سے نوش فرمایا۔

**تعلیم و تعلم:** آپ نے دس سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا

بدگمانی کا سبب ہوتی ہے۔

افسوس اے انسان! کیا تجھ میں خداے تعالیٰ سے جنگ کرنے کی طاقت ہے؟ کیوں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، حقیقت میں وہی اللہ تعالیٰ سے جنگ کرتا ہے۔ بخدا میں نے سزا صحاب بدر سے ملاقات کی ہے، ان میں سے اکثر و بیشتر کا لباس اون کا ہوتا تھا، یعنی وہ دنیا سے بے رغبت تھے اور عیش و نعمت کے حریص نہ تھے۔

اے ابن آدم! عمل کر عمل کر، کیوں کہ عمل ہی تیرا گوشت اور خون ہے۔ نیز غور کس عمل پر تو اپنے رب سے ملاقات کرے گا، بلاشبہ اہل تقویٰ کی چند علامتیں ہیں جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں، من جملہ ان میں سے سچی بات کرنا، عہد و پیمان کو پورا کرنا، صلہ رحمی کرنا، کمزوروں پر رحم کرنا، حسن اخلاق سے پیش آنا اور کشادہ اخلاق، اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والے اعمال ہیں۔

آدمی کی مروت اس کی زبان کی سچائی ہے، اپنے بھائیوں کے بوجھ کو اٹھانا، اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے بھلائی عام کرنا اور اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے باز رہنا۔

بندے کو ہر ایک نفقہ کا حساب دینا ہوگا، سوائے اس نفقہ کے جو اس نے اپنے والدین پر خرچ کیا ہے، یا جو ان سے کم مرتبہ لوگ ہیں یا وہ نفقہ جو اس نے اپنے بھائی پر اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، یا اپنے دوست پر اللہ کی اطاعت میں خرچ کیا ہے۔ کیوں کہ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے ان چیزوں کے متعلق حساب کرنے سے حیا فرماتا ہے۔

چار چیزیں جن کے اندر ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرماتا ہے اور اس پر اپنی رحمت عام فرمادیتا ہے۔ یہ وہ ہے جو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، اپنے غلام کے ساتھ نرم برتاؤ کرے، یتیم کی کفالت کرے اور کمزور کی مدد کرے۔

**وصال پر ملا:** حضرت محمد بن سیرین جو خواب کی تعبیر بیان کرنے میں مشہور تھے، ان سے کسی نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ ایک پرندے نے مسجد سے بہتر کنکری کو لے لیا ہے تو حضرت ابن سیرین نے فرمایا کہ اگر تیرا خواب سچا ہے تو حضرت حسن بصری کی موت ہے، کیوں کہ وہی ہمارے درمیان مسجد میں سب سے بہتر ہیں۔ چند دن نہیں گزرے کہ حضرت حسن بصری کا انتقال ہو گیا۔ آپ کا وصال رجب کے شروع میں 110ھ میں ہوا۔ وصال کے وقت آپ کی عمر مہارک کم و بیش 88 برس تھی۔ شہر بصرہ میں نماز جمعہ کے بعد آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی جس میں کثیر بندگان خدا نے شرکت کی۔ (سیر اعلام النبلاء، کشف الجوب، تہذیب الکمال، تذکرۃ الاولیاء، آداب الحسن البصری وزہدہ و مواظبہ وغیرہ کتابوں سے مضمون تیار کیا گیا۔) ☆☆☆

وعظ فرمایا کرتے تھے، آپ کی مجلس وعظ نے بہت جلد شہرت حاصل کر لی جس میں کثیر تعداد میں لوگ شرکت کیا کرتے تھے، آپ کا وعظ سننے کے لیے اہل علم بھی حاضر ہوا کرتے تھے، حضرت حبیب عجمی اور رابعہ بصری جیسے لوگ بھی آپ کے وعظ میں شریک ہوتے تھے۔

**کرامات:** ایک قافلے کے ساتھ حضرت حسن بصری حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوئے، قافلے والوں کو شدت سے پیاس لگ گئی، راستے میں ایک کنویں پر نظر پڑی تو دیکھا کہ وہاں رسی ڈول کچھ بھی موجود نہیں ہے، جب امام حسن بصری کو حالات کی اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نماز میں مشغول ہو جاؤں تو تم لوگ پانی پی لینا، چنانچہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اچانک کنویں سے پانی اہل اہل پڑا اور سب لوگوں نے اچھی طرح اپنی پیاس بجھائی، لیکن ایک شخص نے احتیاطاً کچھ پانی ایک کوزے میں رکھ لیا، اس کی اس حرکت سے کنویں کا جوش ایک دم ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے خدا پر اعتماد نہیں کیا یہ اسی کا نتیجہ ہے، پھر جب وہاں سے آگے بڑھے تو راستے سے کچھ کھجوریں اٹھا کر لوگوں کو دیں جن کی گھٹلیاں سونے کی تھیں، لوگوں نے وہ گھٹلیاں بیچ کر کھانے پینے کا سامان خریدا اور اس سے صدقہ بھی کیا۔

**صبر کی اقسام اور اس کی وضاحت:** حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی حضرت حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہوا اور صبر کے متعلق سوال کیا، آپ نے فرمایا: صبر دو طرح کا ہوتا ہے ایک تو مصیبتوں اور بلاؤں میں ہوتا اور دوسرا جن باتوں کے کرنے سے ہمیں خدا نے منع کیا ہے ان سے باز رہنا۔ اس پر اعرابی نے کہا: اِنَّكَ زَاهِدٌ مَا رَأَيْتُ اِزْهَدَ مِنْكَ، یعنی آپ زاہد ہیں، میں نے آپ سے بڑھ کر کوئی زاہد نہیں دیکھا اور نہ ہی آپ سے بڑا کوئی صابر دیکھا۔ آپ نے فرمایا اے اعرابی میرا زہد سب کا سب رغبت ہے اور میرا صبر جزع۔ اس پر اعرابی نے کہا کہ میرا اعتقاد مذہب ہو گیا، آپ اس کی تفسیر بیان کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا: میرا صبر مصیبتوں کے قبول کرنے میں میرے اس خوف پر دلالت کرتا ہے جو مجھے دوزخ کی آگ سے پیدا ہو رہا ہے اور یہ عین جزع ہے، یعنی بے قراری ہے اور میرا زہد دنیا میں آخرت کی رغبت کرنا عین رغبت ہے۔ اور خوشی کی بات تو یہ ہے کہ اپنی غرض نکال دے تاکہ صبر خالص خدا کے لیے ہو، نہ کہ اپنے بدن کو دوزخ سے بچانے کے لیے اور زہد بھی خالص خدا کے لیے ہونا چاہیے نہ کہ اپنے آپ کو جنت میں پہنچانے کے لیے اور یہ علامت اخلاص کی درستی ہے۔

**اقوال زریں:** آپ فرماتے ہیں کہ "إِنَّ صُحْبَةَ الْأَشْرَارِ تُؤَدِّبُ سُوءَ الظَّنِّ بِالْأَخْيَارِ" بروں کی صحبت نیکیوں کے ساتھ

## علامہ پیر سید احمد علی شاہ بخاری غور غشتوی

### سید صابر حسین شاہ بخاری قادری

فرائض بھی سرانجام دیئے۔ آپ کو بچپن ہی سے ذوق مطالعہ تھا۔ عقائد و نظریات میں پختگی اور نکھار پیدا کرنے کے لیے اہل سنت کے مشاہیر اہل علم و قلم کی تصانیف خود بھی پڑھتے تھے اور دوسروں کو بھی دعوت مطالعہ دیتے تھے۔ آپ نے فن طبابت میں بھی اپنے وقت کے جید اور حاذق حکما سے اکتساب فیض کیا جن میں حکیم محمد اسماعیل امرتسری حکیم نور محمد چوہان اور حکیم عبدالماجد جیسے اساتذہ فن شامل ہیں جب کہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ فن طب میں انکے اساتذہ خود شاہ صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا استاد کہنے پر بضد رہتے تھے آپ نے ایک نہایت تحقیقی مقالہ "امراض قلب اور ان کا علاج" لکھا جسے زبردست پذیرائی ملی اور آل پاکستان مقابلہ میں یہ مقالہ تیسرے نمبر پر آیا۔ اس پر حکیم محمد سعید شہید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو انعام سے بھی نوازا تھا۔ آپ نے اس مقالے میں امراض قلب کے علاج کے لیے بہت سی طریقوں سے نہایت مفید بحث فرمائی ہے ایک ماہر نباض ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دست شفا سے بھی نوازا رکھا تھا چنانچہ دور دور سے امراض روحانی و جسمانی میں مبتلا مریض آپ کے پاس آتے اور اللہ تعالیٰ انہیں شفا یابی عطا فرماتا۔ آپ خود فرماتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی اس قول مبارکہ کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی ہے کہ العلم علما، علم الابدان و علم الادیان یعنی علم دوہی ہیں بدن کا علم اور دین کا علم۔

آپ نے دورہ حدیث کی تکمیل کے لیے بھی "تقلید" کے موضوع پر مختصر مگر جامع مقالہ لکھا ہے جو اپنے موضوع پر منفرد ہے۔ اردو زبان میں ایک لغت "بھی زیر ترتیب تھی۔ کوٹ نجیب اللہ ہری پور ہزارہ کی معروف روحانی شخصیت حضرت پیر سید شاہ فتح حیدر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر آپ نے حالت خواب میں بیعت کی سعادت حاصل کی۔ آپ کو طریقت کے چاروں سلاسل میں بیعت و خلافت کا شرف بھی حاصل تھا حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث عبد الحکیم شرف قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت استاد العلماء والصلحاء ولی کامل حضرت علامہ مولانا ہدایت الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور مختلف علمائے اہل سنت سے بھی

اس دنیا بآب و گل میں ابوالبشر حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے آنے جانے کا سفر جاری و ساری ہے، لیکن کچھ پاک طینت لوگ جب اپنا رخت سفر باندھ کر عالم آخرت کا سفر اختیار فرماتے ہیں تو نہ صرف اپنے بیگانے کو حیرت ہوتے ہیں بلکہ ان پر زمین و آسمان روتے ہیں۔ ایسے ہی نفوس قدسیہ میں سے مملکت خداداد پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع انک کی تحصیل حضور کے مردم خیز خطہ غور غشتی سے خانوادہ سادات بخاری کے ایک فرد فرید علامہ پیر سید احمد علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی گزشتہ دنوں سفر آخرت اختیار کیا ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

علامہ پیر سید احمد علی شاہ بخاری ابن سید نواب شاہ ابن سید عطر شاہ ابن سید زمان شاہ ابن سید شیر علی شاہ ابن سید اکبر شاہ ابن سید محمد رفیق شاہ ابن سید عبد العظیم شاہ ابن سید سابق شاہ ابن سید ستور شاہ عرف سید بادشاہ بابو زئی شریف رحمۃ اللہ علیہم نے 1354ھ/1935ء میں مملکت خداداد پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع انک کی تحصیل حضور کے مردم خیز خطہ غور غشتی میں آنکھ کھولی۔

آپ نے ابتدائی تعلیم و تربیت گھر میں حاصل کی۔ ناظرہ قرآن کریم پڑھا، عصری تعلیم میں گورنمنٹ ہائی سکول غور غشتی سے میٹرک کیا، بعد ازاں بی اے فرسٹ ڈویژن میں کیا۔ آپ نے علوم اسلامیہ کے لیے استاذ العلماء شیخ القرآن علامہ مفتی میاں عبدالحق غور غشتوی، علامہ مفتی محمد نعمان غور غشتوی اور علامہ مفتی محمد ہدایت الحق رحمۃ اللہ علیہم اور مولانا حافظ غلام مصطفیٰ دامت برکاتہم العالیہ سے اکتساب فیض کیا۔ 1408ھ/1988 میں جامعہ حقائق العلوم حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ ملتان شریف نے فرمائی۔

1387ھ/1967ء میں آپ سرکاری طور پر شعبہ تدریس سے وابستہ ہو گئے۔ آپ نے غور غشتی، مومن پور، برہان شریف، فتح جنگ اور چیچا وطنی کے مختلف سکولوں میں تدریسی فرائض سرانجام دیئے، آپ کو بیک وقت عربی، فارسی، اور اردو زبان میں دسترس تھی۔ آپ نے وقتاً فوقتاً مختلف مساجد میں بلا معاوضہ امامت و خطابت کے

کی اولاد امجاد میں چار صاحب زادگان اور تین صاحبزادیاں ہیں۔ ان میں سید منور علی شاہ بخاری امریکہ میں مقیم ہیں اور اہل سنت کی تبلیغ و اشاعت میں منہمک ہیں۔ وہاں انہوں نے ایک عظیم الشان لائبریری قائم کی ہوئی ہے۔ اپنے آبا و اجداد کے خوشہ چین اور فکر رضا کے امین ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائیوں جیسے دوست محترم جناب تنویر اقبال صاحب کے ساتھ مل کر امریکہ نار تھ کیرولینا ہائی پوائنٹ 7 ایکڑ زمین خرید کر اس پر اعلیٰ شاندار جامع مسجد گلزار حبیب بیادگار حضرت علامہ مولانا محمد شفیع اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ بانی حضرت علامہ مولانا لکھنوی صاحب، قائم کی ہوئی ہے اور مزید اس جگہ بچوں اور بچیوں کے لیے دینی تعلیم پر مشتمل مدرسہ، مسلم کمیونٹی فوٹ شدگان کے لیے فیوزل ہوم، بڑا جنازہ گاہ وغیرہ پر بھی شاندار کام کے حوالے سے کوششوں میں مصروف عمل ہیں دوسرے بیٹے سید محمد علی شاہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں اور اپنے علاقہ میں مختلف فلاحی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ تیسرے بیٹے سید محمود علی شاہ انگلینڈ میں مقیم ہیں جبکہ چوتھے بیٹے سید حامد علی شاہ بھی برطانیہ میں مقیم ہیں اور ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ میں درس نظامی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ذوق مطالعہ و تحقیق بھی رکھتے ہیں۔

ماسٹر جی علامہ پیر سید احمد علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اساتذہ کرام کی معیت میں ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے بھی خدمات سرانجام دی ہیں۔ آپ نے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت بھی اسی نچ پر فرمائی ہے کہ وہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہمیشہ سرگرم رہیں۔

علامہ پیر سید احمد علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ صرف چند دن علیل رہے اور بلال میڈیکل سینٹر راول پنڈی میں زیر علاج تھے۔ آپ کے فرزند ارجمند سید محمد علی شاہ آپ کے پاس تھے کہ 24/ محرم الحرام 1443ھ/ 2/ ستمبر 2021ء بروز جمعرات صبح چھ بجے ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے آسمان تصوف کا یہ آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔

آہ! گلستان سادات بخاری کا ایک مہکتا ہوا خوب صورت پھول تھا جسے فرشتہ اجل نے مسل دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آپ کی بخشش فرما کر آپ کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے اور آپ کی قبر کو بقعہ نور بنائے اور تمام پسماندگان کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل عطا فرمائے آمین ثم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ☆☆☆☆

خلافیت حاصل نہیں مگر اپنی انکساری کی وجہ سے کبھی سرمخفل ان باتوں کا ذکر و اظہار مناسب نہ سمجھتے تھے آپ کی ساری زندگی سادگی و درویشی میں بسر ہوئی، قناعت اور خودداری کا یہ عالم تھا کہ نہایت غربت اور ضرورت کے باوجود بھی کبھی کسی کا احسان لینا گوارا نہ فرماتے تھے۔ آپ پینتیس سال شعبہ تدریس سے وابستہ رہے اور تشنگان علم کو سیراب فرماتے رہے دوران تدریس ہمیشہ اس اصول پر کاربند رہے کہ اگر کوئی طالب علم چاہے انفرادی حیثیت میں بھی کوئی سوال پوچھتا ہے تو جو کچھ اس کے جواب میں میرے سینہ میں موجود ہے وہ اس کے سینہ میں منتقل ہونا چاہیے، محکمہ تعلیم سے 1423ھ/ 2002ء میں باعزت طریقے سے ریٹائرمنٹ لی۔

ریٹائرمنٹ کے بعد جو رقم ملی اس سے حرمین شریفین کا سفر اختیار کیا۔ 1424ھ/ 2004ء میں آپ نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ حج بیت اللہ اور روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینے کی سعادت حاصل کی۔ سخی اور فیاض ایسے تھے کہ گاؤں آکر جو رقم اپنی ریٹائرمنٹ سے ملی ہوئی پتی وہ سب غریبوں اور ناداروں میں لٹا دی۔ مدینہ منورہ میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ نے جب حاضری دی تو آپ کی حالت غیر ہو گئی۔ دوران زیارت روضہ رسول کی جانب منہ کر کے صلاۃ و سلام پڑھنے اور دعا مانگنے پر ایک نجدی مولوی نے اظہار ناراضگی کے ساتھ آپ سے بحث مباحثہ شروع کر دیا انجام کار اس نجدی مولوی نے اس عاشق صادق اور فانی الرسول کا علمی مقام دیکھ کر راہ فرار میں عافیت جانی۔

آپ بچپن ہی سے نہایت کثرت سے اپنے آقا و مولا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے تھے۔ جبکہ درود و سلام سے والہانہ عشق کا یہ عالم تھا کہ جب کبھی کوئی سائل آپ سے وظیفہ پوچھتا یا اپنی کسی تکلیف کا اظہار کرتا تو آپ اسے اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود و سلام بھیجنے کا مشورہ اور حکم عطا فرماتے۔ آپ کو خواب میں بکثرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت باسعادت سے بہرہ ور فرمایا آپ فانی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس مقام پر فائز تھے۔

اسی طرح آپ کو عالم رویا میں مختلف اولیاء اللہ و بزرگان دین بکثرت شرف دیدار سے مشرف فرماتے تھے 1394ھ/ 1974ء میں آپ کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ علاقہ چچھ کے معروف گاؤں برہ زئی شریف کے نہایت نیک سیرت بزرگ باعمل عالم و فاضل پیر سید مقبول شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دختر نیک اختر سے آپ کا عقد مسنون ہوا تھا۔ آپ

## سلسلہ قادریہ کے چند اکابر

بزم دانش میں آپ ہر ماہ بدلتے حالات اور ابھرتے مسائل پر فکر و بصیرت سے لبریز نگارشات پڑھ رہے ہیں۔ ہم اربابِ قلم اور علمائے اسلام کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ دیے گئے موضوعات پر اپنی گراں قدر اور جامع تحریریں ارسال فرمائیں۔ غیر معیاری اور تاخیر سے موصول ہونے والی تحریروں کی اشاعت سے ہم قبل از وقت معذرت خواہ ہیں۔ از: مبارک حسین مصباحی

جنوری 2022 کا عنوان  
فروری 2022 کا عنوان  
عہد حاضر میں نعت کے غیر مسلم شعرا  
جہان اہل سنت میں تاریخ اسلام پر کتابیں

## سلسلہ قادریہ سب سے افضل و اعلیٰ سلسلہ

مفتی محمد ساجد رضا مصباحی

آپ کے تجدیدی کارنامے اور اسلام کو اس کی اصل شکل میں پیش کرنے کی دعوت کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قبولیت بخشی کہ دنیائے اسلام میں آپ شیخ الشیوخ اور پیر پیراں کے معزز القاب سے یاد کیے گئے۔ آپ کی تعلیمات اور منہج و مسلک کو سمجھنے کے لیے آپ کی وہ وصیت کافی ہے جو جو آپ نے اپنے فرزند گرامی کے لیے فرمائی:

”أوصيك بتقوى الله وطاعته ولزوم ظاهر الشرع وسلامة الصدر وسخاء النفس وبشاشة الوجه وبذل الندى وكف الاذى، وحمل الاذى والفقير وحفظ حرمة المشائخ وحسن العشرة مع الاقران والنصيحة للاصاغر وترك الخصومة مع الافارق وملازمة الايثار ومجانبة الدخان.“ [فتوح الغیب، ص: 75] یعنی میں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو اور اس کی فرماں برداری اختیار کرو۔ ظاہر شریعت کی پابندی کرو۔ سینہ کو پاک، نفس کو کشادہ اور چہرہ تروتازہ رکھو۔ جو چیز عطا کرنے کے قابل ہو اسے عطا کرتے رہو۔ ایذا رسانی سے باز رہو، تکالیف پر صبر کرو، بزرگوں کی عزت و احترام کا خیال رکھو۔ برابر والوں کے ساتھ حسن سلوک اور کم عمر والوں کے ساتھ خیر خواہی کے جذبے سے پیش آؤ، احباب سے جھگڑانہ کرو، قربانی و ایثار کا جذبہ اپناؤ، مال و دولت کی ذخیرہ اندوزی سے بچو۔

سلاسل طریقت میں سلسلہ قادریہ سب سے افضل و اعلیٰ سلسلہ ہے، جو غوث صمدانی، محبوب لاثانی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ [470ھ-561ھ] کے اسم گرامی سے منسوب ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سلسلہ قادریہ اور سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت و فضیلت بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

”در اولیای امت واصحاب طرق اتوی کسے کہ بعد تمام راہ جذب بآئد وجوہ باصل این نسبت میل کردہ است و در آنجا بوجہ اتم قدم زدہ است حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی اند، ولہذا گفتہ اند کہ ایٹان در قبر خود مش احیا تصرف می کند۔“ [لمعات، از شاہ ولی اللہ، ص: 61] ترجمہ: اولیائے امت اور ارباب سلاسل میں راہ جذب کی تکمیل کے بعد جو اس نسبت کی طرف سب سے زیادہ مائل اور اس مرتبہ پر بدرجہ اتم فائز ہوئے وہ حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی ہیں، اس لیے مشائخ نے کہا ہے کہ وہ اپنی قبروں میں زندوں کی طرح تصرف فرماتے ہیں۔

چھٹی صدی ہجری کے آغاز میں ارشاد و تلقین اور اصلاح احوال کا جو ہنگامہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے برپا کیا بعد میں ہمیں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ غوث اعظم حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تبلیغی اثرات پوری دنیائے اسلام پر مرتب ہوئے۔

تاج الدین عبدالرزاق قدس سرہم بھی تارتاریوں کے ہاتھوں شہید ہوئے، یہ سارے حضرات سلسلہ قادریہ کے مشائخ میں سے تھے، مملکت روحانیت کے تاج دار حضرت سید محی الدین ابونصر رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت بعد ان کے اخلاف سیدنا علی بن موسیٰ بن سیدنا علی قدس سرہ نے شجرہ طیہہ کو نہ صرف زندہ رکھا بلکہ سلسلہ قادریہ کو عالم اسلام میں فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ [تاریخ مشائخ قادریہ رضویہ، از مولانا عبد المجتبیٰ رضوی، مطبوعہ اکبرک سیلر زلاہور، اشاعت 2018ء، طبع از مقدمہ]

سلسلہ قادریہ کے مشائخ نے اپنے فیوض و برکات سے پورے عالم اسلام کو مستفیض فرمایا، ان مشائخ کے تفصیلی حالات کتابوں میں مذکور ہیں، ہم یہاں موضوع کی مناسبت سے ان میں سے بعض جلیل القدر مشائخ کا بہت اختصار کے ساتھ ذکر کریں گے۔

#### ● حضرت سید عبدالرزاق قادری رحمۃ اللہ علیہ

[۵۲۸ھ-۶۲۳ھ]

آپ غوث صدیقی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے تھے۔ ۱۸ ذی قعدہ ۵۲۸ھ کو بغداد میں پیدا ہوئے، آپ کی کنیت ابوبکر، لقب تاج الدین ہے، آپ کی تعلیم و تربیت والد گرامی کی آغوش ولایت میں ہوئی، زہد و روع، معرفت و روحانیت اور علم و عمل میں اپنے والد گرامی کے مظہر جمیل تھے، خوف و خشیت الہی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے کئی سالوں تک آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھائی۔ 6 شوال المکرم 623ھ میں بغداد معلیٰ میں آپ کا وصال ہوا، نماز جنازہ میں اس قدر بھیڑ ہوئی کہ پورے بغداد میں کہیں بھی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں اتنے لوگ سما سکیں، اس لیے 7 مقامات پر 7 مرتبہ آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی، مزار مقدس بغداد معلیٰ میں مرجع خلائق ہے۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شجرہ قادریہ میں ان الفاظ میں آپ کا ذکر فرمایا ہے:

احسن الله لهم رزقا سے دے رزق حسن

بندہ رزاق تاج الاصفیا کے وسطے

#### ● حضرت سید ابوصالح عبداللہ نصر رحمۃ اللہ علیہ

[۵۲۲ھ-۶۳۲ھ]

حضرت سید ابوصالح نصر رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید عبدالرزاق قادری رحمۃ اللہ علیہ کے شہ زادہ گرامی اور حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر

۱۱ ربیع الآخر ۵۶۱ھ کو حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، آپ کے وصال کے بعد بھی بغداد علم و روحانیت کا مرکز رہا، آپ کی اولاد اور آپ کے خلفائے شریعت و طریقت کے اس گلستاں کو شاد و آباد رکھا، معرفت و حقیقت کے ہزاروں شاہد یہاں جلوہ گن تھے۔ ۶۵۶ھ میں جب تارتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا اور شہر میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا، تارتاری اسلام کے سخت ترین دشمن تھے، انھوں نے یہاں کے علما و صلحا کو چین چن کر قتل کرایا، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تارتاریوں کی سفاکی اور علما و صوفیہ پر ان کے ظلم و جبر کی تفصیل تحریر فرمائی ہے، ایک مقام پر آپ نے لکھا ہے کہ بغداد پر حملہ کے بعد بلا کو خان نے ایک سازش کے تحت یہاں کے علما و صلحا کو ایک جاکر کے انھیں نہایت سفاکانہ انداز میں شہید کیا۔ آپ لکھتے ہیں:

”فاستدعی الفقہا و اماثل یحضر و العقد فخر جو من بغداد فضربت اعناقہم و صار کذلک یخرج طائفہ بعد طائفہ فتضرب اعناقہم حتی قتل جمیع من ہناک من العلما و الامراء و الحجاب و الکبار ثم مد الجسر و بذل السیف فی بغداد و استمر القتل فیہا نحو امن ار بعین یو ما فبلغ القتلی من الف الف نسمة و لم یسلم الامن اختفی فی بیر و قناتہ۔“ یعنی اس نے فقہا اور علما کو دعوت دی کہ وہ عقد [نکاح] کی محفل میں شرکت کریں، یہ حضرات بغداد سے باہر محفل نکاح میں شرکت کے لیے نکلے، تب ان سب کی گردنیں اڑادی گئیں، اسی طرح ایک گروہ کے بعد دوسرا گروہ آتا، ان سب کو قتل کر دیا جاتا، بغداد میں جس قدر علما، امر اور بڑے لوگ تھے، سب قتل ہو گئے، تقریباً چالیس دن تک قتل و غارت گری جاری رہی، اس طرح دس لاکھ سے زائد جائیں ضائع ہو گئیں، صرف وہی بچا جو کنویں یا پردے میں چھپا رہا۔

بغداد کے اس بحران میں لاکھوں علما، فضلا، فقہا، صوفیہ، محدثین قتل کیے گئے، خانوادہ غوث پاک اور سلسلہ قادریہ کے عظیم مشائخ بھی اس ظلم و جبر کے شکار ہوئے، عظیم فقیہ و محدث سید ابوالحسن فضل اللہ بن سید تاج الدین عبدالرزاق بن سید محی الدین عبدالقادر، سید ابونصر محمد بن سید عماد الدین ابوصالح نصر [قاضی القضاة] بن سید

جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، آپ جید عالم و فاضل، محدث و مناظر اور اپنے جد گرامی کے مدرسے کے متولی تھے، آپ اپنے عہد کے قاضی القضاة بھی تھے، جملہ اوصاف کے ساتھ تواضع و انکساری میں بھی اپنی مثال آپ تھے، ہزاروں تلامذہ نے آپ سے علم حدیث و فقہ حاصل کیا، علم فقہ میں آپ کی تصنیف ”ارشاد المبتدین“ بے نظیر کتاب ہے، ۲۷۲ رجب المرجب ۶۳۲ھ کو آپ کا وصال ہوا۔

### • حضرت سیدنا شیخ ابراہیم ایرجی رحمۃ اللہ علیہ

[وصال ۹۵۳ھ]

حضرت سید ابراہیم ایرجی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کا نام حضرت سید معین بن عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ ہے، آپ نے علم شریعت اپنے وقت کے جید علما سے حاصل کی اور علم طریقت اپنے شیخ حضرت شیخ بہاء الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی، آپ نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی، گوشہ تنہائی میں کتابوں کے مطالعہ اور ان کی تصحیح میں مصروف رہتے، 5 ربیع الآخر 953ھ میں وصال ہوا، مزار مقدس دہلی میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلی کے احاطہ درگاہ میں واقع ہے۔

### • حضرت سیدنا شیخ قاضی ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ

[۹۲۵ھ-۹۸۹ھ]

حضرت سیدنا شیخ قاضی ضیاء الدین بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ اجلہ شیوخ قادریہ میں سے تھے، لکھنؤ آپ کی جائے پیدائش ہے، علامہ وجیہ الدین بن نصر علوی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ سے علوم و فنون کی تکمیل کی اور شرف بیعت و خلافت حضرت شیخ نظام الدین شاہ بھکاری رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا، ۲۲ رجب المرجب ۹۸۹ھ میں وصال فرمایا۔

### • حضرت شیخ جمال الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ

[۹۷۳ھ-۱۰۴۰ھ]

حضرت سیدنا شیخ جمال الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ قادریہ کے اکابر شیوخ سے ہیں، آپ ۹۷۳ھ میں کوٹا جہان آباد میں پیدا ہوئے، اپنے والد گرامی مخدوم جہانیاں ثانی سے تعلیم حاصل کی اور انھی کے دست اقدس پر بیعت ہو کر اجازت و خلافت سے سرفراز ہوئے، آپ نے حضرت قاضی ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پانچ سال تک رہ کر علوم ظاہری و باطنی کی تکمیل کی، شب عید الفطر 1040ھ میں آپ کا

وصال ہوا۔

### • حضرت سیدنا شیخ محمد کاپوی رحمۃ اللہ علیہ

[۱۰۰۲ھ-۱۰۷۱ھ]

حضرت سید محمد کاپوی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ قادریہ کے اکابر شیوخ میں ہیں، آپ 1005ھ کو کاپلی میں پیدا ہوئے، والد گرامی آپ کی ولادت سے قبل مفقود الخبر ہو گئے تھے، لہذا آپ کی پرورش و پرداخت والدہ محترمہ کے زیر سایہ ہوئی، اپنے وقت کے مشہور محدث حضرت محمد یونس رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے علم دین کی تحصیل فرمائی، حضرت شاہ جمال الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے شرف بیعت حاصل کیا، اور اجازت و خلافت سے مشرف ہوئے، 7 سال کی عمر سے آپ کی نماز باجماعت کبھی قضا نہ ہوئی، اخیر عمر میں 26 سال تک مسلسل روزے رکھے، ایک زمانے تک درس و تدریس کی محافل بھی آراستہ فرمائی، 13 تصانیف یادگار چھوڑیں 65 برس کی عمر میں 6 شعبان المعظم 1071ھ میں وصال فرمایا۔

### • حضرت سید برکت اللہ مارہروی رحمۃ اللہ علیہ

[وصال ۱۱۴۲ھ]

خانقاہ برکاتیہ مارہرہ مقدسہ ہندوستان میں سلسلہ قادریہ کی عظیم خانقاہ ہے، اس خانقاہ مقدسہ سے قادری فیضان برصغیر کے بے شمار خطوں تک پہنچا، یہ مقدس خانقاہ حضرت سید شاہ برکت اللہ مارہروی رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی سے منسوب ہے، آپ 1070ھ میں بگرام شریف میں پیدا ہوئے، اپنے والد گرامی حضرت سید اویس رحمۃ اللہ علیہ سے تفسیر، حدیث، اصول حدیث وغیرہ کا درس لیا، والد ماجد نے تمام سلاسل کی اجازت و خلافت عطا فرمائی، ان دنوں حضرت سید شاہ فضل اللہ کاپوی کا شہرہ تھا اور کاپلی علم و روحانیت کا مرکز، آپ نے کاپلی کے لیے رخت سفر باندھا اور سید شاہ فضل اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، آپ کو دیکھ انہوں نے فرمایا: ”دریابہ دریا پیوست“ یعنی دریا دریا میں مل گیا، اسی جملے سے سلوک و معرفت اور مقامات تصوف کی سیر کرا دی۔ آپ حضرت غوث اعظم کے شیدائی اور محب صادق تھے، جملہ سلاسل کی اجازت و خلافت کے باوجود صرف سلسلہ قادریہ میں بیعت فرماتے تھے۔ 10 محرم الحرام 1142ھ کو آپ کا وصال ہوا۔

[شرح شجرہ قادریہ رضویہ، مجلس المدینۃ العلمیہ، کراچی، طبع]

سلسلہ قادریہ کے مشائخ کا روحانی فیضان اکناف عالم میں

درمیان تقسیم فرمایا اور آج ہر صغیر سمیت پورا عالم اسلام ان کے احسان تلے دبا ہے۔ یہ کالم اس بات کا تحمل نہیں کہ اس پر مزید کچھ تفصیل کی جائے۔ بس اتنا کہ دینا کافی ہے کہ:

افلت شمس اولین وشمسنا  
ابدا علی افق العلی لا تغرب  
انگلوں کے سورج غروب ہو گئے اور ہمارا سورج ہمیشہ بلندی کے کنارے پر رہے گا اور کبھی غروب نہ ہوگا۔ ❀ ❀ ❀

ہمیشہ برستار رہا ہے، مشائخ قادریہ نے خلق خدا کی رشد و ہدایت کے حوالے سے جو خدمات انجام دی ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، خاص طور سے ہندوستان ہر زمانے میں سلسلہ قادریہ کے اکابر شیوخ کے فیضان کرم سے مالا مال رہا ہے، یہاں سلسلہ قادریہ کی کئی بڑی اور قدیم خانقاہیں آج بھی امت مسلمہ کی علمی و روحانی قیادت کا فریضہ انجام دے رہی ہیں، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قادری فیضان کو علوم و معرفت کی شکل میں امت مسلمہ کے

## سلسلہ قادریہ کے چند مشائخ

### مہتاب پیامی

میں بغداد سے تشریف لائے اور بہار شریف میں قیام فرمایا۔ 860ھ میں ان کا وصال ہوا۔ قادری سلسلے کے ایک اور بزرگ جو صوبہ بہار میں امجد شریف، ضلع اورنگ آباد میں 846ھ میں تشریف لائے۔ یہیں 940ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ علاقہ بنگال میں حضرت تاج الدین محمود قادری 899ھ میں تشریف لائے۔ انہوں نے خود تو یہاں قیام نہیں فرمایا البتہ ان کے شہزادے ابو الحیات قادری یہاں رشد و ہدایت کا کام انجام دیا۔ ان کی نسل اور ان کا سلسلہ طریقت بنگال، پنجاب، بہار، یوپی اور سندھ میں پھیلا۔ زمین دکن کے سب سے مشہور قادری بزرگ شاہ نعمت اللہ قادری (م: 1430ھ) تھے۔ ان کے علاوہ مختلف جگہوں پر قادریہ سلسلے کے دیگر مشائخ بھی سلسلہ قادریہ کی خدمت میں دن رات لگے ہوئے تھے۔ مثلاً: شیخ بہاء الدین بن ابراہیم بن عطاء اللہ قادری شطاری، سید حامد گنج بخش، شیخ داؤد کرمانی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، سید شہباز محمد بھگل پوری، شیخ ابو المعالی قادری، حضرت میاں میر، ملا شاہ وغیرہ وغیرہ ان بزرگوں نے عہد مغلیہ میں قادریہ سلسلے کو کافی فروغ دیا۔

ذیل میں ہم سلسلہ قادریہ کے چند بزرگوں کے اجمالی تذکرے پیش کرتے ہیں:

### تاج الدین حضرت سید عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ:

آپ کی ولادت 18 ذیقعدہ 528ھ کو بغداد شریف میں ہوئی۔ (شجرۃ الکاملین، ص: 221)

آپ کا اسم گرامی عبدالرزاق اور کنیت ابو بکر، ابو الفرح اور عبد

سلسلہ قادریہ کی تنظیم حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وصال کے 50 سال بعد ہوئی۔ افغانستان، بلقان، بنگلہ دیش، پاکستان، ترکستان، چین، ہندوستان، نیز بشمول مراکش مشرقی اور مغربی افریقہ میں اس سلسلے کی خوب اشاعت ہوئی۔ یورپ اور امریکہ میں بھی اس کے سات چھوٹے چھوٹے گروہ پائے جاتے ہیں۔ مشہور سیاح و مصنف ازائیل (Isabelle Eberhardt) بھی اسی سلسلے سے تعلق رکھتا تھا۔ ہندوستان میں سلسلہ قادریہ کے سب سے پہلے بزرگ شیخ حضرت نور الدین مبارک غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اخبار الاخیار کے مطابق آپ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ (م: 633ھ) کے خلیفہ تھے۔ حضرت شیخ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ قادریہ میں حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور ان کے صحبت یافتہ تھے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان اور نسب والا شان سے تعلق رکھنے والے بزرگان بغرض اشاعت اسلام اور ترویج روحانیت ہندو سندھ کے علاقہ میں نویں صدی ہجری سے پہلے آتے رہے ہیں۔ انہیں میں مشہور قادریہ سلسلے کے بزرگ حضرت سید محمود غوث قادری حلبی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ 887ھ میں ہندوستان تشریف لائے اور اوج میں مقیم ہوئے۔ اسی سلسلہ میں ایک دوسرے بزرگ سید بہاء الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہاول شیر قلندر کا نام بھی آتا ہے۔ انہوں نے 973ھ میں وفات پائی۔

خرزینۃ الاصفیا میں قادری سلسلے کے ایک اور مشہور بزرگ حضرت سید نعمت اللہ ولی قادری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آتا ہے۔ جو 840ھ



تھیں حافظ ابن رجب حنبلی نے اپنی کتاب طبقات میں بیان کیا ہے، آپ قاضی القضاة شیخ الوقت، فقیہ، مناظر، محدث، عابد و زاہد اور بہترین واعظ تھے، اور اپنے جد امجد سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ کے متولی تھی۔ آپ انتہائی صحیح و بلیغ گفتگو فرماتے، آپ کی انشا پر دازی اور فتاویٰ نویسی میں ندرت ہوتی تھی، مدینۃ الاسلام کی تینوں مسجدوں میں آپ کا نام خطبہ میں پڑھا جاتا تھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے پیکر تھے، آپ ان لوگوں سے تھے جو کبھی کسی سے خوفزدہ نہیں ہوئے اور ابن کثیر نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ آپ بنو عباس میں عمر بن عبدالعزیز کے مماثل تھے، صادق القول ہونے کے ساتھ ساتھ امور مملکت میں اصلاح کی کوشش بلیغ فرمائی، روٹی کا لباس پہننے اور مقدموں پر غور و خوض کے بعد فیصلہ دیتے، اسلاف کے نقش قدم پر چلتے اور شدت سے حق پر قائم رہتے۔ (شذرات الذہب مطبوعہ بیروت ج: 5، ص: 161، و مرآة الجنان و عمیرة الیقطان للیافعی، ج: 4، ص: 85 مطبوعہ دارۃ المعارف حیدرآباد طبع اول 1339ھ)

آپ 27 رجب المرجب 632ھ کو محبوب حقیقی سے جا ملے۔ مگر بعض لوگوں نے 6 شوال اور 13 شوال 633ھ بھی لکھا ہے۔ آپ نے ستر سال کی عمر میں صبح صادق کے وقت وصال فرمایا۔

(شجرۃ الکاملین، ج: 2، ص: 482)

آپ کا مزار مقدس بغداد شریف میں روضہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں مرجع خلائق ہے۔

### سراج العلم سید محی الدین ابو نصر محمد رحمۃ اللہ علیہ:

آپ بغداد شریف میں پیدا ہوئے۔ تاریخ ولادت کے سلسلے میں مورخین نے سکوت فرمایا ہے اسم گرامی محی الدین ابو نصر محمد ہے۔ آپ کے والد ماجد عماد الدین حضرت ابوصالح نصر ہیں۔

آپ کی تعلیم و تربیت والد گرامی کے ظل عاطفت میں ہوئی، فقہ، حدیث، و دیگر علوم کی تحصیل بھی والد گرامی سے ہی فرمائی۔ ان کے علاوہ آپ نے بہت سے مشائخ وقت سے حدیث پاک سنی۔ (قلائد الجواہر، ص: 171، و عمدۃ الصحائف فی حال اہل الکشف و المعارف، ص: 172)

آپ سلسلہ عالیہ قادریہ کے بیسویں امام اور شیخ طریقت ہیں۔ اپنی عظیم فتاہت کی بنیاد پر عراق کے مفتی مقرر ہوئے جس وقت آپ کے والد ماجد قاضی القضاة کے عہدے پر فائز تھے آپ کو بھی دار اختلاف میں مسند عدالت میں سرفراز کیا گیا تھا لیکن آپ صرف ایک ہی

الرحمن ہے، اور لقب تاج الدین ہے۔ آپ کی تعلیم و تربیت سرکار غوثیت مآب رحمۃ اللہ علیہ کی آغوش میں ہوئی اور والد ماجد ہی سے آپ کو بیعت و خلافت کا عظیم شرف بھی حاصل تھا۔ آپ سلسلہ عالیہ قادریہ کے اٹھارہویں امام اور شیخ طریقت ہیں، آپ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پانچویں شہزادے ہیں، حافظ قرآن و حدیث اور مفتی تھے، معرفت حدیث میں ید طولی رکھتے تھے، صبر و شکر اور اخلاق حسنہ و عفت شکاری میں مشہور و معروف تھے، زہد و خاموشی آپ کا طرہ امتیاز تھا آپ عموماً لوگوں سے کنارہ کش رہتے اور سوائے نماز جمعہ یا دیگر ضروریات دینی کے گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، باوجود عسرت و تنگ دستی کے آپ بڑے سخی اور نرم دل تھے۔ طلبہ سے نہایت انس و محبت رکھتے تھے، آپ کی ذات سے بے شمار لوگ فیضیاب ہوئے۔ آپ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے، حلب میں قیام فرمانے کے سبب لوگ آپ کو حلبی بھی کہتے ہیں۔

آپ کی تاریخ وصال میں کافی اختلاف ہے خزینۃ الاصفیاء میں لکھا ہے کہ ”دو سال پانصد و نود و پنج ہجری است“ اور بعض لوگوں نے 603ھ بروز شنبہ ماہ شوال بتایا ہے مگر شجرہ عالیہ قادریہ میں تاریخ وصال 603ھ المکرم درج ہے۔

آپ کا مزار مقدس حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرہ بغداد شریف میں مرجع خلائق ہے آپ کے خلفا میں صرف آپ کے فرزند اکبر سید ابوصالح نصر رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی اکثر کتب میں ملتا ہے۔

### حضرت سیدنا ابوصالح عبداللہ نصر رحمۃ اللہ علیہ:

آپ کی ولادت باسعادت 24 ربیع الثانی 520ھ کو بغداد شریف میں ہوئی۔ آپ کا اسم مبارک عبداللہ نصر ہے اور کنیت ابو صالح اور لقب عماد الدین ہے۔

حضرت ابوصالح نصر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد گرامی کی نگرانی میں تعلیم مکمل فرمائی۔ والد ماجد کے علاوہ دیگر علما سے بھی علم فقہ و حدیث حاصل فرمایا۔ آپ نے اپنے عم بزرگوار حضرت شیخ عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حدیث سنی اور درس لیا اس کے علاوہ دیگر علوم کا بھی اکتساب فرمایا۔

آپ سلسلہ عالیہ قادریہ کے انیسویں امام و شیخ طریقت ہیں۔ آپ اعلیٰ درجہ کے محقق، عارف حدیث ثقہ نہایت شیریں کلام اور خوش طبع و متین تھے۔ فروعی مسائل میں بھی آپ کی معلومات و وسیع

میں ہوا۔ (ایضاً، ص: 173)

### حضرت سید حسن قادری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ:

آپ کی ولادت باسعادت بغداد مقدس میں ہوئی۔ اسم گرامی میر سید حسن ہے اور والد گرامی کا نام نامی میر سید موسیٰ علیہ السلام ہے۔ آپ کی تعلیم و تربیت والد بزرگوار کی صحبت میں ہوئی اور انھیں سے بیعت و خرقہ خلافت بھی پہنا۔ (عمدۃ الصحائف فی حال اہل الکشف والمعارف، ص: 174)

آپ کا وصال 26 صفر المظفر 78ھ کو بغداد شریف میں ہوا۔ مزار مقدس بغداد شریف میں ہے۔ (ایضاً)

### حضرت سید احمد جیلانی رحمۃ اللہ علیہ:

آپ کی ولادت باسعادت بغداد میں ہوئی۔ آپ کا نام نامی سید احمد جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے اور والد ماجد کا اسم گرامی میر سید حسن رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کی تعلیم و تربیت حضرت میر سید حسن رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں ہوئی اور انھیں سے خلافت بھی پائی۔

(عمدۃ الصحائف فی حال اہل الکشف والمعارف، ص: 173)

میر سید احمد جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ عالیہ قادریہ کے چوبیسویں امام اور شیخ طریقت ہیں۔ مشاہیر اولیائے کاملین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ نے ریاضت و مجاہدہ کی تکمیل کے بعد مسند رشد و ہدایت پر جلوہ گر ہو کر ہزاروں گم گشتگان راہ کو کو صراط مستقیم پر گامزن فرمایا۔ ہزاروں کو اسرار الہی سمجھایا اور آپ سے بہت سے بزرگوں نے فیض باطنی حاصل کیا۔ آپ جامع علوم صوری و معنوی تھے۔ تجرید و تفرید، ریاضت و عبادت اور عامل شریعت و طریقت میں مشہور زمانہ تھے۔

(ایضاً، ص: 174)

آپ کا وصال 19 محرم الحرام 853ھ کو میں بغداد شریف میں ہوا۔ آپ کا مزار بغداد شریف میں ہے۔

### حضرت شیخ بہاء الدین شطاری رحمۃ اللہ علیہ:

آپ کی ولادت باسعادت سرہند (پنجاب) میں جنید نامی شہر میں ہوئی اور وہیں کی نشوونما ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت ابراہیم بن عطاء الانصاری شطاری جنیدی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔

آپ کے شیخ طریقت حضرت شیخ احمد جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں آپ زیارت حریم طیبین کو تشریف لے گئے تھے اسی دوران میں خاص حرم شریف ہی میں بیعت کا شرف حاصل فرمایا اور جملہ اور ادواشغال کی اجازت مرحمت فرمائی گئی اور خلافت کے ساتھ خرقہ سے بھی نوازا

مرتبہ عدالت میں بیٹھے اس کے بعد استغنیٰ دے کر درس و تدریس سے وابستہ ہو گئے۔ آپ اپنے جد امجد حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت مشابہ تھے۔ (ایضاً)

آپ کا وصال 27 ربیع الاول بروز دوشنبہ 656ھ کو بغداد شریف میں ہوا۔ آپ کا مزار مقدس بغداد شریف میں اپنے پرداد کے مدرسہ کے احاطہ میں مرجع خلافت ہے۔

### واقف اسرار حنفی و جلی حضرت سید علی رحمۃ اللہ علیہ:

آپ کی ولادت باسعادت بغداد شریف میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کا نام نامی سید محی الدین ابو نصر ہے۔

تعلیم و تربیت والد گرامی حضرت سید محی الدین ابو نصر علیہ السلام کی صحبت بابرکت میں ہوئی اور دیگر مشائخ وقت سے بھی حدیث، فقہ و دیگر علوم کی تعلیم حاصل کی اور بہت سے لوگوں نے آپ سے اکتساب فیض کیا۔ (عمدۃ الصحائف فی حال اہل الکشف والمعارف، ص: 172)

آپ کو حضرت سید محی الدین ابو نصر علیہ السلام سے شرف بیعت حاصل ہوا اور والد مکرم کے ارشد خلفا میں آپ کا شمار ہے۔ (ایضاً)

آپ سلسلہ عالیہ قادریہ کے اکیسویں امام و شیخ طریقت ہیں۔ علوم ظاہر و باطنی میں کیتاے روزگار، سخاوت و بخشش میں یگانہ زمانہ فراست و دانائی میں باکمال، تجرید و توحید و مشاہدہ میں فانی اور طریقت میں مجتہد لاثانی تھے۔ (ایضاً)

آپ کا وصال 23 شوال المکرم 739ھ میں بغداد شریف میں ہوا۔

### حضرت میر سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ:

آپ کی ولادت بغداد مقدس میں ہوئی۔ آپ میر سید علی علیہ السلام کے فرزند ہیں۔

آپ نے اپنے پدر بزرگوار میر سید علی علیہ السلام سے نسبت و ارادت اور تلقین اذکار و خلوت گزینی پائی۔

(عمدۃ الصحائف فی حال اہل الکشف والمعارف، ص: 173)

میر سید علی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے بائیسویں امام اور شیخ طریقت ہیں، آپ بڑے کامل، عبادت و ریاضت میں بے مثل صاحب تصرفات ظاہر و باطن تھے۔ آپ کی ذات سے کثیر افراد نے فیض پایا اور بے شمار افراد نے علم حدیث کی سماعت آپ سے فرمائی۔

آپ کا وصال 13 رجب المرجب 762ھ میں بغداد شریف

اسی نام سے معروف ہیں۔ لقب ”شریف دانشمند“ ہے۔ ایک شاہی فرمان میں جو دربار اکبری سے 982ھ مطابق 1547ء میں جاری ہوا تھا آپ کو ”قاری آبائی نظام الدین شیخ بھیکہ دانشمند“ کے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔

آپ کے والد ماجد کا نام سیف الدین ہے آپ اپنے وقت کے بڑے ہی مایہ ناز عالم و فاضل اور قرأت سبعہ کے امام تھے جملہ علوم و فنون کو اپنے والد ماجد سے حاصل فرمایا اور درس و تدریس کے ذریعے عظیم دینی و اسلامی خدمات کو انجام دیا۔

(کشف التواریخ فی حال نظام الدین بھکاری، ص: 18)

آپ کو بیعت کا شرف حضرت سید ابراہیم ارجی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل ہوا۔ تاریخ وصال 8 ذیقعدہ 981ھ مطابق 1572ء ہے۔ مزار پُرانوار قصبہ کا کوری کے محلہ جھنڈی روضہ میں واقع ہے۔

**حضرت قاضی ضیاء الدین عرف شیخ جیاء رحمۃ اللہ علیہ:**  
آپ کی ولادت مقدسہ قصبہ نیوتی ضلع لکھنؤ میں 925ھ کو ہوئی۔ ”قاضی جیاء“ تاریخ ولادت پر دال ہے۔

(سلاسل الانوار، بحر ذخار، برکات الاولیاء، ص: 81)

آپ کے والد ماجد کا نام حضرت سلیمان بن سلونی عثمانی ہے۔ آپ کی تعلیم و تربیت ابتدا میں گھر پر ہی ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے حجرات کا سفر اختیار فرمایا اور وہاں حضرت علامہ وجیہ الدین بن نصر اللہ علوی گجراتی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے اکتساب علم فرمایا، اسی دوران تعلیم حضرت علامہ وجیہ الدین علیہ السلام نے اپنی لڑکی کا آپ سے عقد کر دیا۔ آپ نے خرقہ خلافت و اجازت حضرت شیخ نظام الدین شاہ بھیکہ رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل فرمایا اور وہی آپ کے پیر طریقت و روحانی پیشوا ہیں۔

آپ کا وصال مبارک 21 رجب المرجب 989ھ میں قصبہ نیوتی ضلع اناؤ میں ہوا۔ مزار مقدس بھی وہیں پر ہے۔

بزم دانش کے لیے دیا گیا عنوان انتہائی تفصیل طلب ہے، چند صفحات میں مشائخ سلسلہ قادریہ کے احوال نقل کرنا ناممکن ہے، پھر بھی مختصر آکچہ بزرگوں کے احوال پیش کر دیے، ورنہ یہ چند صفحات کا کام نہیں ہے، حق تو یہ ہے کہ ”سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے“۔



گیا۔ (اخبار الاخبار فارسی، ص: 189/190 - خزینۃ الاصفیاء، ج: 1، ص: 115) آپ کو اچھی خوشبو سونگھتے ہی ایسا ذوق و حال طاری ہوتا تھا کہ جاں بلب ہو جاتے تھے چنانچہ آپ کے وصال کا ظاہری سبب یہی ہوا کہ ایک مرتبہ ایک شخص حالت نقاہت میں آپ کی خدمت میں عالیہ میں خوشبو لایا جس کے اثر سے آپ کی روح نفسِ عنصری سے پرواز کر گئی۔ (ایضاً)

آپ کا وصال گیارہ ذی الحجہ 921ھ میں ہوا۔ آپ کا مزار مبارک دولت آباد، دکن میں مرجعِ خلائق ہے۔

### حضرت سید ابراہیم ارجی رحمۃ اللہ علیہ:

آپ کی ولادت ایرج کے مقام میں ہوئی اور وہیں آپ کی نشوونما بھی ہوئی۔ آپ کا اسم مبارک سید ابراہیم ارجی ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید معین بن عبدالقادر بن مرتضیٰ احسنی القادری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ نے علم شریعت و طریقت کی پوری تعلیم حاصل فرمائی اور نام و مشائخ وقت سے استفادہ کیا۔ حضرت شیخ علیم الدین محدث رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے علم ظاہر کی تکمیل کی اور اپنے شیخ طریقت حضرت شیخ بہاء الدین بن العطاء الجندی رحمۃ اللہ علیہ سے علم طریقت کی تکمیل فرمائی۔ آپ کے شیخ طریقت نے بلا خصوص آپ کے لیے ایک رسالہ اذکار و اشغال ”رسالہ شطاریہ“ تصنیف فرمایا۔ (اخبار الاخبار فارسی، ص: 239)

آپ سلسلہ عالیہ قادریہ کے چھبیسویں امام اور شیخ طریقت ہیں آپ کے فضائل و بلندی کا اعتراف جملہ مؤرخین نے کیا ہے چنانچہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب اخبار الاخبار میں بڑی تفصیل سے آپ کے فضائل و مناقب بیان فرمائے ہیں اور لکھتے ہیں کہ ”حقیقت حال یہ ہے کہ آپ کے عہد میں دہلی میں کوئی شخص علم و دانش میں آپ کا ہم پلہ نہیں تھا۔“

آپ کا وصال 5 ربیع الآخر 953ھ میں ہوا۔ آپ کا مزار شریف دہلی میں حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے اندر حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے پائنتی میں واقع ہے۔

**حضرت سید محمد نظام الدین عرف شاہ بھیکہ رحمۃ اللہ علیہ:**  
آپ کی ولادت شریف قصبہ کا کوری ضلع لکھنؤ 890ھ مطابق 1485ء میں ہوئی۔ (مشاہیر کا کوری و تذکرہ علمائے ہند فارسی، ص: 33)

آپ کا اسم مبارک محمد نظام الدین ہے اور مریدین و خلفائے آپ بھکاری کے نام سے مشہور ہیں۔ نیز مثنویات و شجرات میں بھی آپ

## نور کے ساغر میں حمد و مناجات کی تابشیں

### مبارک حسین مصباحی

اعتراض کیوں ہو؟ دینے والا خالق کل اور مالک کل ہے، لینے والے صاحب اختیار رسول ﷺ ہیں، ان کے فیضان سے انبیا اور اولیا ہیں۔

کوچہ مصطفیٰ میں پہنچا دے  
نور جائے گا اور کہاں تیرا  
حضرت نور تمنا کر رہے ہیں، میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے  
حبیب کا غلام ہوں۔ غلام کے لیے اپنے آقا کا در ہی سب سے زیادہ  
محبوب ہوتا ہے۔ مگر پہنچانے کا اختیار تو پروردگار تیرا ہی ہے۔ اس  
لیے عرض کیا ”نور جائے اور کہاں تیرا“ اس ناز و ادا میں جو دیوانگی کا  
رنگ ہے اسے ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، یہ صرف محسوس  
کرنے کی چیز ہے۔

ہوا کی قینچیاں جب طائروں کے پر کتریں  
پکارتے ہیں وہ بے اختیار نام ترا  
خزاں کے طائر سفاک کے کتر کر پر  
بکھیر دیتا ہے رنگ بہار نام ترا  
دونوں شعروں میں بڑے اچھوتے انداز میں حمد باری کی گئی  
ہے، ایک طرف ”ہوا کی قینچیاں“ اس صنعت لفظی میں حیرت انگیز  
جدت ہے۔ ”طائروں کے پر کتریں“ حسن تعبیر کی دل کشی ہے ”خزاں  
کے طائر سفاک“ کی بندش نے بھی عقلموں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا اور  
پھر اس مصرع میں ”کتر کر پر“ بکھیر دیتا ہے ”رنگ بہار نام ترا“ خزاں اور  
بہار کی آمد و رفت پر کتنی خوب صورت تلمیح ہے، بس پڑھتے رہیے....

یوں ہی شاعری میں پائی ہے عزت  
جس نے دیا ہے کمال، میرا خدا ہے  
ہو نہ شرمندہ ترے ہوتے ہوئے  
نور کا دست دعا رب عظیم  
میرے دن رات کی ہے یہ تفصیل  
دل میں تو، لب پہ گفتگو تیری  
ہے اب نیساں سے نشانی کو بچھانے والا  
صدف کو گوہر بنانے والا مرا خدا ہے

اہل دل پر کھل جاتے ہیں  
حکمت کے دروازے اس کے  
اس شعر میں حضرت نور نے اسلام و سنیت کی طویل بحث کو سمیٹ  
دیا ہے۔ اس موضوع پر بے شمار تقریریں ہو چکی ہیں، قرآن اور احادیث کی روشنی  
میں ہزاروں دستاویز لکھے گئے۔ حضرت نور کا یہ شعر دیکھیے۔  
جسے چاہے اس کو نواز دے  
جسے چاہے اس کو تو بخش دے  
حضرت نور کبھی بھی اپنی شاعرانہ عظمتوں کے لیے وَاَمَّا  
بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو) پر  
عمل کرتے ہیں۔

ملیں نور کو جو یہ عزتیں، یہ محبتیں یہ سعادتیں  
مگر ان امتیازات کو آپ کبھی اپنا کمال نہیں بلکہ عطاے الہی  
ہونے کا یقین رکھتے ہیں۔

ہیں ترے کرم کی کرامتیں تری شان جل جلالہ  
اس شعر پر نظر ڈالیے۔

بجز عظمت کا ترے ایک جو قطرہ لکھ دوں  
وہ کبھی ہوگا مرے معبود کرشمہ تیرا  
ساری خلقت پہ خدا یا ہے حکومت تیری  
شرکت غیر کہاں، صرف ہے قبضہ تیرا  
پہلے شعر میں اپنی انکساری میں حق بیانی فرمائی، یعنی جو بجز  
عظمت خدا کے ایک قطرے کا ذکر خیر بھی توفیق الہی کے بغیر ممکن نہیں  
اور دوسرے شعر میں عرض گزار ہیں، تمام مخلوقات پر اے خدا تیری  
حکومت ہے، اس لیے غیر کی شرکت کا تصور بھی نہیں، جہاں تک ہم  
سمجھتے ہیں، یہ سب سے بڑی توحید بیانی ہے۔

جس کو چاہے اسے عطا کر دے  
ہے ہر اک ملک عز و شان تیرا  
اس شعر میں آپ نے لاکھوں صفحات کو چوڑ کر رکھ دیا ہے، اللہ  
تعالیٰ مالک کل ہے، وہ اپنے محبوبوں کو عطا فرمادے تو اس میں غیروں کو

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾

(سورہ ق، آیت: 16)

ترجمہ: اور ہم دل کی رگ سے بھی اس سے زیادہ نزدیک ہیں۔

آپ نے میر تقی میر کے کلاموں کی شاخوں پر ”نعتوں کے دیے“ روشن کیے ہیں اور مکمل نعتیہ مجموعہ شائع فرما دیا ہے۔ بقول حضرت سید نور، میر کی غزلوں پر اردو زبان میں یہ پہلا مکمل مجموعہ ہے۔ ہم نے بھی اس کی زیارت کی ہے، دل و دماغ شاد کام ہو گئے۔ اس میں ایک حمد اور ایک مناجات ہے۔ میر تقی میر کا مصرع ہے ”نگاہیں اٹھ گئیں طوفان پر سے“ اس مصرع پر پہلا مصرع لگایا ہے ”خدا نے حوصلہ بخشا وہ مجھ کو“ یہ حضرت سید نور کی مدحت خداوندی کا ایک اہم کمال ہے کہ آپ نے حمد یہ مصرع لگا کر میر کے مصرع کو بھی حمد یہ بنا دیا ہے۔ آئیے اب کچھ اشعار مزید دیکھیے۔

تجسس کی نظر بھی ہے ضروری

ملا کب ہے وہ بس گردِ سفر سے

اس شعر میں حضرت نور نے جوئے الہ کے لیے ”تجسس کی

نظر بھی ہے ضروری“ کتنا پر کیف مصرع نظم فرمایا ہے۔ رموزِ تصوف کے اسرار ہر فرد نہیں سمجھ پاتا، سچ یہ ہے کہ جو عارفان باللہ ہوتے ہیں ان سے دریافت کیجیے کہ عرفان رب تعالیٰ کن مشکلوں کے بعد حاصل ہوتا ہے، شاعر محض ایک شاعر نہیں بلکہ عارف باللہ اور خاندانِ مصطفیٰ ﷺ کے پر نور چراغ ہیں۔

دوسرے شعر میں فرماتے ہیں۔

خدا ہے وہ اگر کرنے پہ آئے

بجھا دے آگ کو برق و شر سے

اس کی واضح مثال جلیل القدر بیغمبر حضرت ابراہیم کی ہے کہ آپ کو بھڑکتے ہوئے شعلوں میں ڈالا گیا فضل الہی سے آپ محفوظ و مامون رہے، ارشاد الہی ہوا: ﴿قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ (سورہ انبیاء، آیت: 69)۔ ترجمہ: ہم نے فرمایا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر— یا پھر ساداتِ کرام ہیں کہ آقا ﷺ کا خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے جس کی برکت سے انہیں آگ نہیں جلاتی ہے۔

آگے عرض کرتے ہیں۔

دل کو رازِ حقیقت کا گنجینہ کر

تجھ سے ہی لو لگی ہے میرے کردگار

مجھ پر ترے کرم سے یہ عقدہ کھلا

بیخودی ہی خودی ہے مرے کردگار

حضرت سید نور نے ان اشعار میں اپنے مسائل نہیں، بلکہ کائنات کے مسائل رکھ دیے ہیں۔ پہلے شعر میں اپنی عزت پر افتخار کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں ”جس نے دیا ہے کمال، میرا خدا ہے“۔ اس کے بعد اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا جو انداز اختیار کر رہے ہیں، یقیناً ایک بندہ کبھی یہ انداز اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ارحم الراحمین ہے، خوش ہو کر دعا قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت نے اپنے شب و روز کی تفصیل بیان کی ہے ”دل میں تو، لب پہ گفتگو تیری“ اس کے بعد دل پہ نعت کے قافلے اتارنے کی خواہش کی ہے اور یہ ایک بڑی مقدس دعا ہے۔ آخری دو شعروں میں صوفیانہ اسرار کے گنجینہ کی آرزو کی ہے کہ ”دل کو رازِ حقیقت کا گنجینہ کر“ یہ شعر مکمل عارفانہ ہے۔ آخری شعر میں فلسفہ خودی کو بڑے آسان لہجے میں سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے، مگر یہ مسئلہ کہ ”بے خودی ہی خودی ہے“۔ عام قارئین کی سمجھ سے بالاتر ہے مگر صدق دل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اسرار نظر آجائیں گے۔

### نعتیہ مجموعوں سے چند حمدیہ اشعار:

ہم لکھنا یہ چاہتے ہیں ”ایک نعت“ کے بعد ہم آپ کے دیگر چند نعتیہ دواوین سے بھی دو ایک حمدیں لے لیتے ہیں، ان کے بعد ہم ”ایک نستعین“ میں موجود مناجات اور دیگر کتب میں شامل مناجات پر کچھ لکھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ اس وقت ہمارے روبرو مجموعہ ”نعت“ ”دریچہ نور“ ہے۔ اس میں ایک ”حمد باری تعالیٰ“ ہے۔ اس کے یہ دو شعر دیکھیے۔

ہے زمیں تیری، آسمان تیرا

اے خدا ہے یہ کل جہاں تیرا

تیری قدرت ہیں زندگی کے افق

ہے مکاں تیرا لا مکاں تیرا

ان اشعار میں عقیدہ توحید کا کتنا حیرت انگیز انداز سے اعلان

فرمایا ہے

جب کیا غور تو کھلا عقدہ

ہے ٹھکانہ قریبِ جاں تیرا

سچائی کو آپ نے حمد کے ایک مصرع میں بیان کر کے کمال کر دیا ہے۔ بلا شبہ آپ کا یہ مصرع یا شعر ہر خاص و عام کی زبان زد ہونے کے لائق ہے۔  
دوسرا شعر دیکھیے۔

ہے کون توڑ پائے جو تیرا یہ ضابطہ  
ہر اک عروج کے لیے وقت زوال ہے  
بعض لوگ بڑے کم ظرف ہوتے ہیں، انھیں اگر عروج و ترقی مل جائے تو وہ اپنے سے کمزوروں پر ظلم و ستم شروع کر دیتے ہیں۔ یہ گندی سوچ ہے، مثل مشہور ہے ”ہر کمال کے لیے زوال ہے“ اپنے شعر میں یہ ضابطہ بڑے مؤثر انداز سے بیان کر دیا ہے، اس سے آپ کی فکری بلندی اور مسلم حقیقت کی ترجمانی اظہار من اٹھس ہو گئی ہے۔  
آگے عرض کرتے ہیں۔

اے تُوَرِ شَرْقِ وَ غَرْبِ مِیْنِ اس کی ہی رنگتیں  
اس کی ہی ذات وجہ جنوب و شمال ہے  
اس شعر میں آپ نے ایک انوکھی حمد بیان کی ہے۔ ساری جہتیں اسی کی قدرت کے مظاہر ہیں وہ اگر چاہے تو ان سمتوں کو بدل بھی سکتا ہے۔ بہر کیف اگر انسان غور کرے تو ذرے ذرے سے اس کی حمد و ثنا کا خاموش اعلان ہو رہا ہے۔

کہ دیا جانے یہ کس نے باخدا دیوانہ باش:  
اللہ عزوجل اور رسول کریم ﷺ کے مقامات اور آداب کے تعلق سے یہ مصرع معروف ہے ”باخدا دیوانہ باش و باحمد ہوشیار“۔  
ہو سکتا ہے ہم نے بھی کسی تحریر میں استعمال کیا ہو، مگر کبھی گہرائی میں اتر کر سوچنے کا اتفاق ہی نہیں۔ آج جب ہم نے سید نور کا یہ شعر پڑھا تو ہم ورطہ حیرت میں ڈوب گئے۔ آپ کا شعر ہے۔

کہ دیا جانے یہ کس نے باخدا دیوانہ باش  
جب سے آیا ہے خیال اس کا ہوں حواری تعاش  
کسی بھی مصرع میں بات کہنے کے مختلف زاویے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ مصرع ”باخدا.....“ بھی کسی بزرگ کا ہو، اب انھوں نے کس رخ اور کس زاویے سے یہ مفہوم بیان کیا ہے۔ سچائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ”وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ“ فرما کر اپنے محبوب کے ذکر کو محبوب کے لیے بلند کیا۔ اپنے حبیب کی بارگاہ کے آداب میں یہ آیت کریمہ بھی نازل فرمائی:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ

بیاں کیسے کروں میں اس کی قدرت

شمر دیتا ہے بے موسم شجر سے

اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے بے موسمی پھل عنایت فرماتا تھا، اس کی مکمل تفصیل قرآن مجید میں موجود ہے۔ ہمارے وطن قصبہ شاہ آباد ضلع رام پور (یوپی) میں ایک ”بیل والے حضرت“ کا مزار اقدس ہے، ٹھیک مزار شریف کے قریب ایک بیل کا درخت ہے، وہ بارہ مہینے ہر ابھرا رہتا ہے اور اس پر ہمیشہ بیل اترتے رہتے ہیں، اس قدیم مزار شریف کی تاریخ وہاں کے باشندوں کو بھی معلوم نہیں۔ حضرت نور کے اس مصرع ”شمر دیتا ہے بے موسم شجر سے“ کی سچائی درجنوں بار ہم نے کھلی آنکھوں سے دیکھی ہے ”بیل والے حضرت“ کے مزار شریف پر دعائیں بھی خوب قبول ہوتی ہیں۔

اب آپ اس حمد کا آخری شعر ملاحظہ فرمائیے۔

شجر میں ہے نمو اس کی ہی اے تُوَرِ

خدائی اس کی ظاہر ہے شمر سے

مخلوقات میں غور کرنا تو بڑی بات ہے، آپ ایک درخت ہی کو دیکھ لیجیے، ایک پھل دار درخت لگایا جاتا ہے، وہ پروان چڑھتا ہے، اس پر پھل آتے ہیں، ان میں بھی نسلیں ہوتی ہیں، جیسے درخت لگائے جائیں گے اسی نسل کے پھل آئیں گے، آپ سیب ہی کو دیکھ لیجیے، وہ طاقت کس کی ہے جو ٹہنیوں پر سیب پیدا فرماتا ہے، بعض علاقوں کے سیب کم ذائقہ ہوتے ہیں اور کشمیر یا دیگر بعض علاقوں کے سیب اچھے، خوشبودار اور انتہائی لذیذ ہوتے ہیں، اسی لیے حضرت نور نے عرض کیا ہے ”خدائی اس کی ظاہر ہے شمر سے“۔

”ثنا کی نکھتیں“ مجموعہ نعت بر زمین غالب ہے، اس میں ایک حمد باری تعالیٰ ہے، چند اشعار آپ بھی ملاحظہ فرمائیے۔

ہر زندگی کو موت یقینی ہے اے خدا

تو رب کائنات ہے تو لازوال ہے

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ (آل عمران: 185)

مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْعٰوْرِۃِ ۗ﴾

ترجمہ: اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے۔

”انبیا کو بھی اجل آنی ہے۔ مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔“ اس تاریخی

صَوْتِ النَّبِيِّ ﴿(الْحَجَرَات: آیت: 2)

ترجمہ: اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے (نبی) کی آواز سے۔

خانہ کعبہ اور دنیا کی تمام مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، ان مقدس مقامات کے آداب سے عام طور پر مسلمان واقف ہیں۔ مگر حضرت سید نور فرماتے ہیں: ”جب سے آیا ہے خیال اس کا ہوں مجھ اور تعاش“ یہ مجھ اور تعاش ہونا دراصل حمد نگاری کے پس منظر میں ہے، بلاشبہ اللہ عزوجل کی حمد و ثنا انتہائی حساس اور نازک ترین مرحلہ ہے، یہاں بھی نفس نفس پر خوف و خشیت اور عرفان و آگہی لازم ہوتی ہے۔ یہاں معمولی لغزش بھی حمد نگار کو ناکام و نامراد بنا دیتی ہے اور اگر لغزش گستاخی کی منزل میں پہنچ جائے تو حمد و ثنا کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور حمد و ثنا کا مقدس اور پاکیزہ عمل اس کے فکر و قلم کی غلط روی سے ناکامی اور نامرادی تک پہنچا دیتا ہے،

اسی ضمن میں حضرت کا یہ دوسرا شعر بھی ملاحظہ فرمائیے

پا نہیں سکتے کسی بھی سنج عافیت میں چین

شیشہ آداب ہیبت اللہ کر کے پاش پاش

### مناجات اور دعائیں:

دعا اور مناجات بھی ایک بندہ مومن کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہیں اس تعلق سے ہم پہلے چند آیتیں اور احادیث نقل کرتے ہیں: ارشاد باری تعالیٰ ہے:

(1) ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ (البقرہ: 186)

ترجمہ: اور اے محبوب جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے۔

یہ حق اور سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمان و مکان سے پاک ہے، یہ آیت کریمہ صحابہ کرام کے سوال کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ کے جواب میں نازل ہوئی، بلاشبہ پاک پروردگار انسان کی رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے مختلف شرائط اور درجات ہیں، کچھ بندوں کی دعائیں اسی وقت قبول ہو جاتی ہیں اور کچھ آخرت کی جانب منتقل ہو جاتی ہیں، اسی لیے بندے بزرگوں سے دعائیں کرنے کے لیے عرض کرتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے قریب تر ہوتے ہیں۔ ان

کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔

(2) ﴿أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (الاعراف: 55)

ترجمہ: اپنے رب سے دعا کرو گڑگڑاتے اور آہستہ بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔

(3) ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۗ﴾ (المؤمن: 60)

ترجمہ: اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔

(4) ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يُكَشِفُ السُّوءَ﴾ (النمل: 62)

ترجمہ: یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی۔

ان آیتوں سے یہ واضح ہو گیا کہ بندوں کو دعا کرنا چاہیے، کبھی کبھی مولا اپنے بندوں کو روتے گڑگڑاتے ہوئے دیکھنا پسند فرماتا ہے، ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ دعا قبول نہ ہونے پر شکوہ اور شکایت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صبر و شکر کے ساتھ مزید دعائیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم ﷺ اور دیگر انبیاء اور اولیاء کے وسیلے سے دعا کرنا چاہیے۔ اگر ہو سکے تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے دعاؤں کی گزارش کرنا چاہیے، دعا بذاتِ خود عبادت بلکہ عبادت کا مغز ہے۔

اب چند احادیث مبارکہ بھی ملاحظہ فرمائیے:

(۱) - حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ محبوبِ ربِّ اکبر ﷺ نے فرمایا، اللہ عزوجل فرماتا ہے: ”میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔“ (مسلم، کتاب الذکر والدعاء، باب فضل الذکر والدعاء والتقرب، رقم

2675، ج ۱، ص 1442)

(۲) - حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے شہنشاہِ مدینہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ”دعا مانگنے سے مت اتناؤ کیونکہ دعا کی ہمراہی میں کوئی ہلاک نہ ہوگا۔“ (مسند رک، کتاب الدعاء

والکبیر، باب لا یصلک مع الدعاء احد، رقم 1861، ج 2، ص 164)

(۳) - حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور

ﷺ نے فرمایا: ”دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور زمین و آسمان

یہ ساری باتیں تصوف و روحانیت سے تعلق رکھتی ہیں جن کا سمجھنا اور سمجھانا ہم جیسوں کے وہم و خیال سے بلند بلکہ بہت بلند ہے۔ ہمیں سر دست عرض کرنا یہ ہے کہ حضرت سید تورا نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مناجات کی ہے اس میں ”نبی کا آئینہ رز گزار دے اللہ“ فرمایا ہے۔ آپ اپنی حیات کی زلفیں سنوارنے کے لیے آقا ﷺ جیسا عظیم رہبر و رہنما کی بھیک مانگ رہے ہیں، ”ہر ایک تاریخ میں جس کے ہوئے عشق نبی“ اس کا ایک ایک تار ادب سے طلب کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس رخ پر گہرائی میں کسی شیخ کبیر کی رہنمائی میں اتریں تو آپ کو اس کی ہمہ گیری اور گیرائی کا کسی قدر اندازہ ہوگا۔ حضرت سید تورا عشق رسول کا شاہکار طلب کر رہے ہیں، حالاں کہ آپ عشق رسول کے قصیدے تو مسلسل لکھتے رہتے ہیں، یہاں آپ نے شاہکار طلب کر کے صوفیانہ راز کو راز میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کو وہ شاہکار عطا فرمادے اور ان کے طفیل ہمیں بھی سرفراز فرمادے۔ آخری شعر میں آپ نے عشق نبی کی جنوں خیزی کے بحر کو مختصر کرنے کی دعا فرمائی ہے، یہ عارفانہ راز و نیاز کی باتیں ہیں ہم جیسے تو بس لفظوں کو بھی کما حقہ سمجھنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔

دوسری مناجات دیکھیے۔

مجھ کو تسخیر دو عالم کی نہیں کچھ حاجت  
میرے اللہ مرا نفس مسخر کر دے  
شہر طیبہ کے گداؤں کا گدا ہو جاؤں  
کب تمنا ہے مری مجھ کو سکندر کر دے  
ہونہ تقسیم کبھی ظاہر و باطن میرا  
ایک جیسا ہی مرا اندر و باہر کر دے

ان اشعار میں شاعر محترم نے صوفیانہ باتیں کہی ہیں، نفس کشی جہاد اکبر ہے اس کی طلب کوئی معمولی دعا نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے۔ آپ نے سکندر بننے کی تمنا سے بھی سخت گریز کیا ہے یہی اللہ والوں کی شان بھی ہوتی ہے۔ آپ تو شہر طیبہ کے گداؤں کے گدا بننا چاہتے ہیں یہ ایک سچائی ہے، سرکار ﷺ کے گداؤں کے گدا ہی زندہ جاوید ہوتے ہیں، ایک کامیاب اور فائز المرام بندے کا یہی امتیازی افتخار ہوتا ہے، اس دعا کے مانگنے کے انداز نے دنیا کو یہ خاموش سبق دیا ہے کہ سکندر بننا آسان ہے مگر اس کا زوال بننے سے بھی ہزاروں گنا آسان ہے، اگر دعا ہی مانگنا ہے تو شہر طیبہ کے گداؤں کی

کا نور ہے۔“ (مستدرک، کتاب الدعاء والتکبیر، باب الدعاء سلاح المؤمن، رقم 1855، ج 2، ص 162)

(۴) حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا، ”اللہ عزوجل کے نزدیک کوئی چیز دعا سے زیادہ عزت والی نہیں۔“ (جامع ترمذی، کتاب الدعوات، باب ماجاء فی فضل الدعاء، رقم 3381، ج 5، ص 243)

ان احادیث کے مفہیم واضح ہیں، مزید تفصیلات کے لیے مزید مطالعہ فرمائیں۔

اب مناجاتیہ حصہ ”ایک نستعین“ سے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے پہلی مناجات کے پہلے شعر کو اس طرح قرطاس دل سے سمیٹ کر سینہ قرطاس پر رقم فرمایا ہے۔

نبی کا آئینہ رگزار دے اللہ  
مری حیات کی زلفیں سنوار دے اللہ  
ہر ایک تاریخ میں جس کے ہوئے عشق نبی  
مجھے وہ پیر ہن تار تار دے اللہ  
قصیدے روز ہی کہتا ہے مصطفیٰ کے مگر  
مرے قلم کو کوئی شاہکار دے اللہ  
نبی کا نقش قدم نور کی نگاہ میں ہے  
جنوں کے بحر کو اب اختصار دے مولا

آغا حشر کاشمیری نے نہ جانے کس جذب و شوق میں یہ کہا تھا  
سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ  
مرے اس دعا کے بعد

اس شعر کا حقیقی مقام رب تعالیٰ سے اس کے حبیب ﷺ کی صدق دل سے آرزو کرنا ہے یعنی سائل خدا سے اس کے محبوب کو مانگ چکا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے اپنا محبوب عطا فرمادیا، جب سرور کائنات مل گئے تو سچے اور حقیقی بندے کو سب کچھ مل گیا اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے یہ غیرت بندگی کے خلاف ہے۔ مگر ہماری یہ تمام گفتگو محض شاعرانہ بھی نہیں، بعض بندے ہر پل اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی بارگاہ سے مسلسل دعا کرتے رہتے ہیں۔ کچھو کچھ مقدسہ کے ایک بزرگ سے شرف نیاز حاصل ہوا ان کا اپنا طریقہ یہ تھا کہ وہ دعائیں مانگتے تھے، ان کا فرمانا یہ تھا کہ رب تعالیٰ عالم الغیب والشہادۃ ہے، وہ ہماری ساری ضرورتوں کو بخوبی جانتا ہے۔ خیر



گدائی مانگو۔ غلامانِ مصطفیٰ ﷺ دنیا اور آخرت میں سلطانی کرتے ہیں۔ آخری شعر میں قول و فعل اور ظاہر و باطن میں یکسانی کی دعا کی ہے۔ یہ بڑی اہم اور بنیادی آرزو ہے کسی بھی کامل مومن اور صوفی حق شناس کے لیے یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے۔

### حضرت سید نور کی رباعیات:

ہم اپنے آفس میں تھے بزرگ نقاد ڈاکٹر فضل الرحمن شرر مصباحی دام ظلہ العالی کی کال آئی اور فرمایا کہ آپ کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا: اپنی نشست گاہ پر۔ بس ابھی میں آتا ہوں۔ آپ تشریف لائے، سلام اور خیریت کے بعد کچھ باتیں ہوئیں معروف صحافی محترم احمد جاوید (ایڈیٹر روزنامہ انقلاب، پٹنہ) بھی تشریف لے آئے، مختصر ضروری باتوں کے بعد ڈاکٹر شرر مصباحی مجموعہ حمد و مناجات ”ایاک نعبد و ایاک نستعین“ دیکھنے لگے، سب سے پہلے آپ نے ”رباعیات“ کو ملاحظہ فرمایا، ہم آپ کے چہرے کا مشاہدہ کر رہے تھے، نورانی چہرے پر بشاشت اور ہلکی مسکراہٹ دیکھی اور کتاب رکھتے ہوئے فرمایا: ماشاء اللہ اچھے شاعر ہیں۔ فرمایا: میں نے رباعی کو اس لیے دیکھا کہ اس کے اوزان میں عام طور پر شعر غلطیاں کرتے ہیں مگر ماشاء اللہ یہاں تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ ہم نے عرض کیا: ڈاکٹر صاحب! حضرت سید نور کے سولہ مجموعے ہندوپاک سے شائع ہو چکے ہیں۔ فرمایا: حیرت ہے کہ میں اب تک ان سے واقف نہیں۔

اب ہم حضرت سید نور کی چند رباعیات نقل کرتے ہیں:

خورشید کو چمکا کے اندھیرا کر دے

تو چاہے تو رات کو سویرا کر دے

مرضی تری اک ذرے کو وسعت دے کر

دنیا کے لیے رین بسیرا کر دے

اس رباعی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا گیا ہے۔ خورشید کی روشنی میں اندھیرا کرنا، رات کو سویرا کرنا اور ایک ذرے کو وسعت دے کر رین بسیرا کرنا، یہ سب خالق اور مالک کے لیے ممکن ہے۔ حضرت نور نے اس رباعی میں جس طرح اپنے فن کا مظاہرہ فرمایا ہے بار بار داد دینے کو جی چاہتا ہے۔

دل غم سے ہوا نڈھال رب اغفر لی

ہے کار نفس مجال رب اغفر لی

تجھ سے نہ کہوں تو پھر کہوں کس سے میں

ہوں غرق انفعال رب اغفر لی  
آنکھوں میں عشق کے اجالے بھر دے  
دل ذکر رسول سے منور کر دے  
دیکھوں میں یہیں سے سبز گنبد یارب  
سب دوری طیبہ کے ہٹا دے پردے  
ساحل پہ لگے میرا سفینہ! آمین  
دیکھوں وہ رسول کا گنبد! آمین  
نعتیں کہتے خدا کو سجدے کرتے  
پہنچوں میں خدا کرے مدینہ! آمین

اس رباعی میں آپ نے نعتیں کہنے اور خدا کو سجدے کرنے یعنی حمد و نعت کے روحانی ماحول میں مدینہ منورہ پہنچنے کی عشق انگیز آرزو کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس مبارک آرزو کو جلد پورا فرمائے، آمین۔ اور آپ کی اس رباعی کے فیضان سے یہی توفیق ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آمین تم آمین۔

### چند احساسات:

سچائی یہ ہے، حضرت سید نور ایک عظیم شاعر ہیں، آپ کی منظومات اپنے اندر بڑی گہرائی اور گہرائی رکھتی ہیں، آپ نے غزلیں بھی کہی ہیں، مگر اس وقت آپ کے نوک قلم کی مکمل توجہ حمد و مناجات اور مختلف زاویوں سے نعت نگاری ہے۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے، حمد نگاری مقدس اور پاکیزہ شغف ہے، سچ اور حق یہ ہے کہ یہ بڑا نازک اور باریک فن ہے، بڑے بڑے شعر ابھی حمد و نعت لکھنے سے بڑی حد تک محفوظ رہتے ہیں۔ حمد و مناجات لکھنے کا مشکل مرحلہ ہو یا نعت نگاری، ان کے لیے قرآن و سنت سے مکمل آگاہی ضروری ہے۔ دبستان نعت کے امیر امام احمد رضا نے بھی یہی لکھا ہے ”قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی۔ یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ“ اردو میں نعت کے بڑے بڑے یکتاے روزگار شعر اپہیں، مگر بڑی حد تک امام احمد رضا نے نعت گوئی میں حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم انہیں بلا شبہ کامیاب ترین نعت نگار سمجھتے ہیں، کم از کم ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ سید نور فرمائیں کہ ”قرآن سے میں نے حمد گوئی سیکھی“ حق یہی ہے کہ مسئلہ حمد نگاری کا ہو یا نعت کہنے کا، دونوں کے بنیادی ماخذ قرآن عظیم اور احادیث نبویہ ہیں، دیگر چند شعر کی طرح آپ کے یہاں بھی رموزِ تصوف کا غالبہ نظر آتا ہے۔ (باقی ص: 23 پر)

# اصلاح عوام

نقد و نظر

تبصرہ نگار: مبارک حسین مصباحی

عقیقہ کا گوشت کچھ رشتہ داروں کا نہ کھانے کے تعلق سے غلط فہمی کا ازالہ:

عوام میں یہ بہت مشہور ہے کہ عقیقہ کا گوشت بچے کے ماں باپ اور دادا دادی، نانا نانی نہ کھائیں یہ شخص غلط ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ (بہار شریعت، جلد سوم، ص: 357، مکتبہ المدینہ)

گردے واوجھڑی کھانا کیسا؟

گردے کھانا جائز ہے مگر حضور ﷺ نے پسند نہ فرمایا، اس وجہ سے کہ پیشاب ان میں سے ہو کر مٹانہ میں جاتا ہے اور اوچھڑی کا کھانا مکروہ (ناجائز) ہے۔ (الملفوظ، چہارم، ص: 341)

ولیسے کی تعریف اور اس کی مدت:

ہمارے ملک ہندوستان میں ولیسے کا روان بہت کم ہے، عام طور پر منڈے کے دن کھانا کھلا دیا جاتا ہے یعنی بارات جانے سے ایک روز قبل دوپہر یا شام میں، حسب استطاعت دعوت عام کر دی جاتی ہے، اس میں بیرونی رشتے دار اور متعلقین بھی آجاتے ہیں، اگر بتایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس طرح تو اخراجات کا لمبا سلسلہ جاری رہے گا، ہم لوگ بس کسی طرح شادی کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ صرف غریبوں کا اور اوسط درجے کے افراد میں نہیں بلکہ دولت مندوں میں بھی رائج ہے۔ دعوتوں کے بڑے اہتمام و انصرام کرتے ہیں مگر ولیسے کی سنت سے محروم رہتے ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ مہمانوں کو ایک روز پہلے آنے کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ آجاتے ہیں، اگر آپ انہیں بارات کی شرکت یا صرف ولیسے میں شرکت کی دعوت دیں گے تو وہ اسی کے مطابق آئیں گے، اس نکاح مسنون میں خرچ بھی ہوتا ہے اور ولیمہ کرنے کی سنت بھی ترک ہو جاتی ہے۔ شب زفاف کے بعد احباب کی دعوت کرنا ولیمہ ہے اور یہ سنت ہے۔ اس کے مطابق عمل کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ اس تعلق سے مولف نے بڑے معلومات افزا اور اصلاحی اقتباسات نقل کیے ہیں۔ انہیں ذیل میں پڑھیے۔

”شب زفاف کی صبح کو احباب کی دعوت ولیمہ ہے، رخصت سے پہلے جو دعوت کی جائے ولیمہ نہیں، یوں ہی بعد رخصت قبل

کتاب : اصلاح عوام  
مؤلف : محمد الیاس رضا خاں رضوی  
صفحات : 104  
اشاعت : 2019  
ناشر : ڈاکٹر اختر علی وآس محمد خان، ربو پورہ، گریٹر ٹونینڈا

ہماری میز پر اس وقت دینی، اصلاحی اور فقہی جزئیات پر مشتمل مطبوعہ ”اصلاح عوام“ ہے ٹائٹیل پر سورہ النمل کی آیت 43 ہے ”فَأَسْمَأُوْاْ اَهْلَآءَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ“ ترجمہ ”تو اے لوگو! علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں“ اس میں مستند کتابیں اور معتبر شخصیات سب شامل ہیں۔ معلومات کے اجالے سے جہالت کی تاریکیاں ختم ہوتی ہیں۔ اہل علم سے دریافت کرنے سے اپنے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے ”جہل کی بیماری کی شفا علما سے دریافت کرنا ہے“ عوام ہی نہیں بلکہ خواص کے علم میں بھی نکھار پیدا ہوتا ہے۔ کتاب میں دینی، علمی، فقہی اور علم کلام کے مسائل پر فتاویٰ اور مستند کتابوں کے مختصر مختصر اقتباسات ہیں، کتاب کا نام ”اصلاح عوام“ منتخب کیا گیا ہے مگر سچ اور حق یہ ہے کہ اس کے مطالعہ سے خواص کے خزانہ علم میں بھی تازگی پیدا ہوتی ہے۔ عبادات اور معاملات کے شرعی مسائل ہیں۔ خانگی، معاشرتی اور کاروبار حیات کے دیگر پہلوؤں پر اصلاحی اور اخلاقی تقاضوں کی رہبری ہے۔

کتاب کے مؤلف محب مکرّم حضرت مولانا قاری محمد الیاس رضا خاں رضوی دام ظلہ العالی ہیں، موصوف کی اب تک زیارت تو نہیں ہوئی ہے مگر گفتگو سے نستعلیق اور اصلاحی جذبات سے بھرپور معلوم ہوتے ہیں نیک اور پابند شرع ہیں اور دیگر مسلمانوں کو بھی بلند اخلاق اور صالح دیکھنا چاہتے ہیں۔ موصوف نے جن مسائل اور مستند اقتباسات کو نقل فرمایا ہے اس میں بڑی دیانت داری ہے اور حوالوں کا بھی بڑی حد تک اہتمام فرمایا ہے۔ چند مثالیں ذیل میں پڑھیے:

میں لاٹری اور بعض حصوں میں بی. سی. بولا جاتا ہے جسے کچھ لوگ مل جل کر ڈالتے ہیں اور اس کمیٹی کے مشترک افراد میں جس کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو وہ گھائے میں کمیٹی سے رقم اٹھالیتا ہے اور بچی ہوئی رقم کو کمیٹی کے لوگ آپس میں بانٹ لیتے ہیں کمیٹی والوں میں کسی کو فائدہ زیادہ ہوتا ہے کچھ کو کم۔

یہ برائی مسلمانوں میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے یہ برائی بھی سود ہی کی طرح اور اس سے بچنا مسلمانوں کو فرض اور ثواب ہے۔ بولی والی کمیٹی کے تعلق سے فتاویٰ مرکزی دارالافتا میں ص 112 پر ہے کہ یہ طریقہ جائز نہیں ہے اور یہ بھی سود ہی کی طرح ہے اور اسے منافع کہہ کر لینا آپس میں تقسیم کر لینا ناجائز و گناہ سود ہے۔ وہ لوگ توبہ کریں واللہ تعالیٰ اعلم۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت فرمائے!

اب آپ صرف چند عنوانات ملاحظہ فرمائیے:

- \* جماعت میں شامل ہونے کے لیے دوڑنا منع ہے۔
- \* سلام کے جواب میں جیتے رہونہ کہو۔
- \* ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنا کیسا ہے؟
- \* مرنے کے بعد اولاد پر ماں باپ کے حقوق کیا ہیں؟
- \* مرنے کے بعد ہونے والی بری رسموں کا بائیکاٹ۔
- \* حاجتِ اصلیہ کی تعریف۔
- \* زکاۃ کن لوگوں کو نہیں دینا چاہیے۔

\* مہر کو ادا نہ کرنا کیسا ہے؟

\* چند امراضِ نعمت ہیں

\* شہادت نامہ پڑھنا حرام ہے۔

\* نظم میں ”نور نامہ“ کی کتاب کا پڑھنا جائز نہیں۔

چند عنوانات ہم نے نقل کئے ہیں بانی کثیر عنوانات بھی انتہائی اہم اور ضروری ہیں۔ اے کاش اس کتاب کا ہندی ترجمہ ہو جائے تو مزید بہتر ہوتا، عوام و خواص سے ہماری گزارش ہے کہ اس کتاب کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے۔

اللہ عزوجل کی بارگاہ میں دعا ہے مولیٰ تعالیٰ اپنے غیب داں پیغمبر معلم دو عالم ﷺ کے طفیل اس کاوش کو مفید و موثر فرمائے۔ حضرت مولف دام ظلہ العالی کو دارین کی سعادتوں سے سرفراز فرمائے۔ کتاب کو مقبولیت و سرفرازی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام

☆☆☆

زفاف اور ریانا موری کے قصد سے جو کچھ ہو حرام ہے۔ اور جہاں اسے قرض سمجھتے ہیں وہاں قرض اتارنے کی نیت میں حرج نہیں اگرچہ ابتداء یہ نیت محمود نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“ (فتاویٰ رضویہ، ج: 5، ص: 171)

اور دوسرے دن کا کھانا سنت ہے اور تیسرے دن کا کھانا سماعہ ہے (یعنی سنانے اور شہرت کے لیے ہے) جو سنانے کے لیے کوئی کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سنائے گا یعنی اس کو سزا دے گا۔ (ترمذی شریف)

ہندوستان میں شادیوں کا سلسلہ کئی دن تک قائم رہتا ہے، سنت سے آگے بڑھنا ریواسماعہ ہے اس سے بچنا ضروری ہے۔

(قانون شریعت، دوم)

### تہانفلی روزہ رکھنے کا مسئلہ:

عام طور پر بعض نیک حضرات خاص جمعہ کے دن روزہ رکھ لیتے ہیں، اس دن تہانفلی روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ آپ نے گراں قدر عبارتیں نقل فرمائی ہیں:

”رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کوئی روزہ نہ رکھے اور دوسری روایت میں ہے جمعہ کا دن عید ہے، لہذا عید کے دن کو روزہ کا دن نہ کرو۔“ (بہار شریعت، مکتبۃ المدینہ، ص: 1014، جلد اول)

”خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، البتہ آگے یا پیچھے اور روزہ ملا کر رکھے کہ نفل سنت روزہ تہانفلی ہے۔“ (قانون شریعت، ص: 147)

### خدا کا واسطہ دے کر بھیک مانگنا؟

بعض لوگ اور فقیر خدا کا واسطہ دے کر بھیک مانگتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے کچھ دے دو۔ حالانکہ اس طرح سے مانگنا جائز نہیں، لیکن اگر اس طرح مانگ ہی لے تو ضرور دینا چاہیے۔ حدیث میں ایسے شخص کو ملعون کہا گیا ہے۔ جو خدا کا واسطہ دے کر مانگے اسے بھی ملعون کہا گیا ہے۔ جس سے خدا کا واسطہ دے کر کچھ مانگا جائے اور وہ نہ دے۔

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں ملعون ہے وہ جو اللہ کا واسطہ دے کر کچھ مانگے اور ملعون ہے جس سے خدا کا واسطہ دے کر مانگا جائے پھر وہ اس سائل کو نہ دے جب کہ اس نے کچھ بے جا سوال نہ کیا ہو (طبرانی) اور فرماتے ہیں ﷺ جس سے خدا کا واسطہ دے کر کچھ مانگا جائے اور وہ دے دے تو اس کے لیے سزائیں لکھی جائیں۔“ (تہذیب، شعب الایمان)

### بولی والی کمیٹی ڈالنا کیسا ہے؟

موجودہ دور میں کچھ عرصہ سے بولی والی کمیٹی جسے کچھ علاقوں

## منظومات

## بچوں کی نعتیہ نظم

آؤ، سنائیں پیار کا نغمہ اور کہانی آقا کی  
بچپن کی ہر بات نرالی اور جوانی آقا کی  
دائی حلیمہ کے آنگن میں عدل کا پیکر لگتا ہے  
دودھ کے بھائی کی خاطر وہ کیسا جذبہ رکھتا ہے  
بکری، شیر نظر آتے ہیں اک دو بچے کے گلہری یار  
چاروں طرف دیکھے دنیانے ان کی اداؤں کے انوار  
سچ کہنا، سچ ہی سننا اور سچوں کی باتیں کرنا  
ان کی صبح و شام تھی عادت! عزت کی روٹی کھانا  
سلجھا ہے ان کی باتوں سے کالے پتھر کا جھگڑا  
سارے قبیلے والوں نے پکڑا ہے چادر کا کونا  
ایسا امانت دار کہ ہر اک تاجر چاہت رکھتا ہے  
عبداللہ کا بیٹا ہاتھ میں کیسی برکت رکھتا ہے  
اک بیوہ سے شادی کر کے دنیا کو پیغام دیا  
ناداروں کو عزت بخشی، بچوں کو انعام دیا  
سر پہ یتیموں کے تانی ہے شفقت کی پیاری چادر  
بیواؤں کے سر پہ رکھی ہے عفت کی پیاری چادر  
روتے بلکتے بچے کو یوں خوشیوں کی سوغات ملی  
عید کے دن دنیانے دیکھا ہے ایسا کردارِ نبی  
مولیٰ نے جنت رکھ دی ہے ماں کے قدم میں یاد رکھو  
سچے نبی کی باتیں سن کر ہر لمحہ تم شاد رہو  
کھیل تماشوں میں ہرگز تم وقت نہیں کرنا برباد  
اس سے نہیں ہو پائے گی یہ چھوٹی سی دنیا آباد  
نعتِ نبی کی عادت ڈالو رب سے دعائیں کرتے رہو  
احسن کی نظموں کو پڑھو تم اور قلم سے پیار کرو

توفیق احسن برکاتی

## روشنی ہوگئی

آپ آئے تو تاریکیاں چھٹ گئیں، روشنی ہوگئی  
ظلم اور جبر کی بیڑیاں کٹ گئیں، آشتی ہوگئی  
آپ آئے تو بادِ بہاری چلی، گل مہکنے لگے  
خوشبوؤں سے سبھی بستیاں اٹ گئیں، تازگی ہوگئی  
سارا عالم تھا ڈوبا ہوا کفر میں، آگئے مصطفیٰ  
شرک و بدعت کی طغیانیاں گھٹ گئیں، راستی ہوگئی  
کالے گورے کی تفریق بھی ختم کیں، متحد پھر کیا  
دوریوں کی سبھی کھائیاں پٹ گئیں، دوستی ہوگئی  
جھوم کر خوب برسسا ہے ابرِ کرم، لطفِ شاہِ ام  
خوانِ سرور سے جب نیکیاں بٹ گئیں، بہتری ہوگئی  
اُن کی باتوں نے سب پر مشاہد کیا، خوب گہرا اثر  
جن کے لہجوں میں تھیں تلخیاں ہٹ گئیں، چاشنی ہوگئی

ڈاکٹر محمد حسین مشاہد رضوی

## کچھ نہیں

ابتدا، فہرست، عنوان، گوشوارہ کچھ نہیں  
وجہ بخشش باعثِ اعزاز نعتِ مصطفیٰ  
اپنے منگتوں کو دیا تاکہ ان کے ہونٹ پر  
جو ہولناکیاں سراپا سچ ہے اس کی مدح میں  
ہے بسا ان پتلیوں میں سبز گنبد کا جمال  
نعت کا موضوع ہے وہ بحرِ بے پایاں نظیر  
جس میں ہے وسعت ہی وسعت اور کنارہ کچھ

ڈاکٹر واحد نظیر

## صدائے بازگشت

### شریعت کو مضبوطی سے تھام لو

مکرمی!

اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی شریعت و سنت کی اتباع، بدعات و محرمات سے اجتناب اور ان کے رد و تبلیغ سے عبارت ہے۔ انہوں نے نہ صرف اپنی تحریروں بلکہ کردار و عمل سے اسلام و شریعت کی سچی تصویر دنیا کے سامنے پیش کی۔ وہ صرف ایک عظیم محقق، عبقری فقیہ اور آتش نوا شاعر ہی نہیں بلکہ ایک عابد شب زندہ دار صوفی و زاہد، درویش کامل اور متبع سنت و شریعت تھے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم سے جہاں بہت سے مردہ اور فرسودہ دینی و عصری علوم و فنون کو زندہ کیا وہیں اسلام و شریعت کی اہمیت و عظمت اور اس کے تقدس و برتری کو بھی مدلل و مفصل طریقے سے واضح کیا۔

کچھ لوگ تصوف و طریقت کے نام پر سادہ لوح مسلمانوں کو گمراہ کر کے شریعت کو بدنام کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ طریقت کی آڑ میں شریعت پر حملہ اعلیٰ حضرت کے دور میں بھی ہو رہا تھا اور طریقت کو شریعت سے نہ صرف الگ قرار دیا جا رہا تھا بلکہ اس کا مقام بھی کچھ اور ہی متعین کیا جا رہا تھا۔ جب اس بارے میں اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ عمر و کا بیان ہے، شریعت نام ہے چند فرائض و واجبات و سنن و استقباب و چند مسائل حلال و حرام کا جیسے صورت و ضو و نماز وغیرہ اور طریقت نام ہے وصول الی اللہ تعالیٰ کا، اس (طریقت) میں حقیقت نماز وغیرہ منکشف ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے لکھا:

”عمر و کا قول کہ شریعت چند احکام فرض و واجب و حلال و حرام کا نام ہے محض اندھا پن ہے۔ شریعت تمام احکام جسم و جان و روح و قلب و جملہ علوم الہیہ و معارف نا متناہیہ کو جامع ہے جن میں سے ایک ایک کلمے کا نام طریقت و معرفت ہے۔ واہذا باجماع قطعی جملہ اولیائے کرام تمام حقائق کو شریعت مطہرہ پر عرض کرنا فرض ہے، اگر شریعت کے مطابق ہوں حق و مقبول ہیں ورنہ مردود و مخدول۔ تو یقیناً قطعاً شریعت ہی اصل کار ہے، شریعت ہی مناط و مدار ہے، شریعت ہی محک و معیار ہے۔“

مزید لکھتے ہیں: ”شریعت راہ کو کہتے ہیں اور شریعت محمدیہ علی صاحبہا افضل الصلوٰۃ و الخیرہ کا ترجمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ، یہ قطعاً عام و مطلق ہے نہ کہ صرف چند احکام جسمانی سے خاص۔ یہی وہ راہ ہے کہ پانچوں وقت ہر نماز بلکہ ہر

رکعت میں اس کا ماننا اور اس پر ثبات و استقامت کی دعا کرنا ہر مسلمان پر واجب فرمایا ہے کہ اهدنا الصراط المستقیم ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ چلان کی شریعت پر ثابت قدم رکھ۔ یہی وہ راہ ہے جس کا منتہا اللہ ہے۔ قرآن عظیم میں فرمایا: بے شک اس سیدھی راہ پر میرا رب ملتا ہے۔ یہی وہ راہ ہے جس کا مخالف بد دین گمراہ ہے۔

قرآن عظیم نے صاف فرمادیا کہ شریعت ہی صرف وہ راہ ہے جس سے وصول الی اللہ ہے اس کے سوا آدمی جو راہ چلے گا اللہ کی راہ سے دور پڑے گا۔ عمر و کا قول کہ طریقت نام ہے وصول الی اللہ کا محض جنون و جہالت ہے ہر دو حرف پڑھا ہوا جانتا ہے کہ طریق، طریقہ، طریقت راہ کو کہتے ہیں نہ کہ پہنچ جانے کو تو یقیناً طریقت بھی راہ ہی کا نام ہے۔ اب اگر وہ شریعت سے جدا ہو تو بشہادت قرآن عظیم خدا تک نہ پہنچائے گی بلکہ شیطان تک، جنت میں نہ لے جائے گی بلکہ جہنم میں کہ شریعت کے سوا سب راہوں کو قرآن عظیم باطل و مردود فرما چکا، طریقت یہی شریعت ہے اسی راہ روشن کا ٹکڑا ہے اس کا اس سے جدا ہونا محال و ناسزا ہے جو اسے شریعت سے جدا جانتا ہے اسے راہ خدا سے توڑ کر راہ الہیوں ملتا ہے مگر حاشا طریقت حقہ راہ الہیوں نہیں قطعاً راہ خدا ہے کیونکہ وہ شریعت مطہرہ ہی کا ٹکڑا ہے۔

اعلیٰ حضرت نے مذکورہ سوالات کے جوابات میں ”مقال عرفان باعزاز شرع و علما“ کے نام سے ایک مکمل رسالہ تصنیف کیا جس میں قرآنی آیات و احادیث کے علاوہ چالیس اکابر اولیائے کرام کے اسی ارشادات عالیہ پیش فرما کر اس امر کو واضح کیا کہ طریقت، شریعت ہی کا ایک جز ہے، شریعت منبع ہے اور طریقت اس میں سے نکلا ہوا ایک دریا۔

دور حاضر میں بھی ایسے بہت سے جاہل پیر و فقیر ہیں جو اپنے آپ کو اہل طریقت قرار دے کر کھلے عام غیر شرعی امور انجام دیتے ہیں اور پیری و مریدی کا جال پھیلا کر عوام کو جنت کا ٹکٹ تقسیم کرتے ہیں۔ جو ان کے جھانسنے میں آجاتا ہے اس کا عمل اور جیب دونوں صاف ہو جاتا ہے۔ اس نازک وقت میں اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ مختصر لفظوں میں یہ کہا جاسکتا ہے، شریعت کو مضبوطی سے تھام لو یہی اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے۔

مولانا محمد عرفان قادری

استاذ مدرسہ حنفیہ ضیاء القرآن شاہی مسجد بڑا چاند گنج لکھنؤ

کیوں نہ ہو کہ ایسا ہونا بھی چاہیے۔

صاحبزادہ حضرت سید سعید اختر اور صاحبزادہ حضرت سید رضوان میاں نے بھی اپنے بھائی حضرت سید سہیل میاں کے لئے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور کہا ہم تمام بھائی بائق رائے سہیل میاں کو سجادگی پر مقرر کر رہے ہیں، حضرت سید سعید اختر صاحب کے اس جملہ نے محفل میں ایک رنگ پیدا کر دیا پھر وہ وقت بھی آیا جب سرکاران مارہرہ اور بلگرام نے مشترکہ طور پر حضرت سید سہیل میاں کے سر پر سجادگی کی پگڑی باندھی پوری محفل نعرہ بے تکبیر و رسالت سے گونج اٹھی۔

بعد میں نو منتخب صاحب سجادہ سید سہیل میاں نے آبدیدہ ہو کر عظمت والدین پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا دنیا میں مجھے کوئی نعمت مل جائے لیکن طاہر ملت حبیب باپ نہیں ملے گا انھوں نے کہا یہ رسم سجادگی کی ذمہ داریاں کیا ہیں میرے دل سے پوچھو کہ آج میں کتنا گراں بار ہوں لیکن کوشش یہ ضرور کروں گا کہ طاہر ملت کی ادا بن سکوں حضرت سید سہیل میاں نے والد گرامی پر بیان کرتے ہوئے کہا کہ طاہر ملت صرف میرے باپ نہیں اپنے بے شمار مجاہدین کے روحانی باپ تھے اور ان کے جانے سے صرف میری اور میرے بھائیوں کی آنکھیں نم نہیں بلکہ ان سے ایک مرتبہ بھی اگر کوئی ملتا تو ان کی آنکھیں بھی نم ہیں، حضرت طاہر ملت دسترخوان پر کیوں نہ بیٹھے ہوں لیکن اگر ملنے والا پریشان حال آجاتا تو نوالہ چھوڑ کر ان سے ملنے باہر تشریف لے آتے، حضرت سید مولانا ندیم قادری نے اولیائے طریقت کی شان میں تصوف سے پر اشعار پیش کیے۔

محفل نور میں کثیر تعداد میں مشائخ طریقت اور علمائے کرام حاضر رہے جس میں حضرت سید فیضان میاں بلگرامی، ڈاکٹر سید بادشاہ میاں بلگرامی، علامہ سعید احمد جو کھنپوری، مفتی حنیف برکاتی، سید حسان میاں مسولی شریف، قاری عارف قادری واحدی، مولانا حنیف قادری مولانا عرفان الحق قادری، مولانا اسرار احمد فیضی، مفتی امیر حسن امجدی، مفتی فرقان رضا، حافظ احسان رضا، مفتی فرید نوری، قاری یوسف سنبھلی، قاری ناظر حسین حسینی، مولانا اسرائیل کے اسما قابل ذکر ہیں، شعر میں محمد علی فیضی، راشد رضا مرکزی سلیم رضا، سیف رضا واحدی، فرحان رضا برکاتی، وغیرہ نے نعت و مناقب پیش کیے، قاری ناظر رضا حسینی، مولانا اسرائیل مسعودی، قاری یوسف رضا سنبھلی نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ رفیق ملت، مخدوم ملت، سہیل ملت کی دعائیہ پر صلوة و سلام کے ساتھ محفل کا اختتام ہوا۔

از: قمر اخلاقی امجدی

خانقاہ قادریہ تیغیہ کھر ساہا شریف سیتا مڑھی بہار

## چہلم حضرت سید شاہ طاہر میاں بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ

مکرمی! سلام مسنون۔

عام طور پر خانقاہوں کے ماہین چپقلش اور آجی مشاجرت دیکھنے کو ملتی ہے یہ کسی سے پہنچا نہیں ہے لیکن گزشتہ ماہ 25 ستمبر کے دن کو خانقاہ واحدیہ طیبیہ میں منعقد مرجع طریقت مسند رشد و ہدایت آل رسول حضور سرکار سید طاہر میاں بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس چہلم میں اتفاق و اتحاد اور محفل کی جو روحانیت دیکھنے کو ملی وہ دور دور تک کسی پروگرام میں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔

حضرت طاہر ملت رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے بعد شیخ طریقت حضرت مولانا سید سہیل میاں قادری چشتی واحدی کو خانقاہ واحدیہ طیبیہ کا سجادہ منتخب کیا گیا اس محفل نور میں سادات عظام اور ملک بھر کی خانقاہوں کے سجادگان اور نامور علمائے کرام نے شرکت فرمائی، محفل کا انعقاد خانقاہ واحدیہ طیبیہ کے کشادہ صحن اور تاریخی قدیمی مسجد کے احاطہ میں ہوا، مرکز تجلیات مارہرہ مطہرہ کے صاحب سجادہ رفیق ملت حضرت سید نجیب حیدر میاں مارہروی نے دوران خطاب کئی قیمتی باتیں کہیں اور حضرت رفیق ملت نے شیخ طریقت سید سہیل میاں کو اپنا تبرک رومال عطا کرتے ہوئے اپنے سلسلہ برکاتیہ کی خلافت و اجازت سے نوازتے ہوئے کہا یہ فیض اصل میں اسی در کا ہے جو آج میں سہیل میاں کو عطا کر رہا ہوں، ان سے پیشتر مرجع طریقت بحر معرفت حضرت حافظ و مولانا سید اویس مصطفی قادری صغری صاحب سجادہ خانقاہ صغریہ بلگرام شریف نے دوران نصیحت قیمتی باتیں کہیں اور ساتھ میں اپنے سلسلہ صغریہ کی خلافت و اجازت سے بھی نوازا اور کہا اگرچہ سہیل میاں مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں لیکن خاندان کا طریقہ یہ بھی ہے جو عمر میں بڑے ہوتے ہیں وہ بھی اپنی خلافت و اجازت سے نوازتے ہیں چوں کہ بڑے بھائی سید نجیب میاں اپنی خلافت و اجازت سے نواز چکے ہیں، لہذا میں بھی اپنی خلافت صغریہ جو خاندان کا پہلا سلسلہ ہے اس سے نوازتا ہوں اس درمیان سید سہیل میاں نے مخدوم ملت سید اویس مصطفی کی دست بوسی فرمائی پھر دعا فرمائی۔

یہ لمحات واقعی قابل دید اور روحانیت سے پر تھے جب بڑی بڑی خانقاہوں کے سادات شخصیات حضرت آل رسول سید سہیل میاں کو اپنی دعاؤں سے نواز رہے تھے یہ یادیں تاریخ کے لیے انمول حسین گلدستہ کی حیثیت رکھتی ہیں، اس طرح انوار و تجلیات سے پر شخصیات کا سبکا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، مشائخ عظام کے ماہین اتفاق و اتحاد اور الفت و محبت کی یہ روحانی گھڑی دیکھ کر تمام مشائخ کے مجاہدین فرحان و شاداں تھے اور

## خبر و خبر

### وارانسی سے حج پرواز شروع کرنے کا مطالبہ

وارانسی سے حج پرواز شروع کرنے کے مطالبہ پر حافظ نوشاد احمد عظمیٰ کی حمایت میں پروانچل کے چاروں طرف سے دانش ور، سرکردہ شخصیات اور علمائے کرام میدان میں اتر رہے ہیں۔ آج اس سلسلے میں عالم گیر شہرت یافتہ دینی درس گاہ الجامعۃ الاشرافیہ کے سینئر استاذ و ماہ نامہ اشرافیہ کے مدیر اعلیٰ الحاج مولانا مبارک حسین مصباحی نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وارانسی سے حج پرواز 2007 سے شروع ہوئی تھی اور اسے شروع کرانے کے لیے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مئی 2006 میں محمد آباد گوہنہ منو میں ایک پروانچل کی حج کانفرنس حافظ نوشاد احمد عظمیٰ نے بلانی تھی جس میں شدید گرمی اور دھوپ کے باوجود بیس سے پچیس ہزار افراد نے شرکت کی اور اس حج پر کافی علماء و دانش وران موجود تھے جس میں ملک کی سب سے بڑی سیاسی میگزین انڈیا ٹوڈے نے ایک تیج کی اسٹوری کی تھی۔ اس کانفرنس میں محمد عظیم خان اسٹیٹ حج کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے شرکت کی اور مجھے بھی اس کانفرنس کو خطاب کرنے کا موقع ملا اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ مرکزی حکومت نے 2021 سے وارانسی سے حج پرواز بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ مولانا نے مزید کہا کہ وارانسی کا ایئر پورٹ ملک کے بڑے ایئر پورٹ میں اب شمار ہونے لگا ہے اور وزیر اعظم کا حلقہ انتخاب بھی وارانسی ہے کسی بھی طرح وارانسی سے حج پرواز بند کرنا مناسب اور انصاف کا تقاضا نہیں ہے انھوں نے کہا کہ وارانسی لیبریشن کے قریب کے اضلاع جن میں مبارک پور اعظم گڑھ بھی شامل ہے عازمین حج کو طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا انھوں نے کہا کہ حج ہمارا مذہبی فریضہ ہے اور اللہ کے مہمانوں کی آسانی اور سہولت دلانے کے لیے ہم لوگ حافظ نوشاد احمد کی جدوجہد کی ستائش کرتے ہیں اور ان کی خدمات پروانچل کے لیے ہی نہیں بلکہ ملک کے عازمین حج کے ساتھ رہی ہے ان کی خدمات کی ایک لمبی فہرست ہے جس پاکیزگی اور شفافیت سے انھوں نے حج کے معاملات 1998 سے اٹھاتے چلے آئے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مصطفیٰ جانِ رحمت ﷺ کے صدقہ اور طفیل میں بہت

سے امور میں کامیابی عطا کی ہے مولانا نے کہا کہ اس وارانسی حج پرواز کے سلسلے میں وزیر اعظم سمیت حج کمیٹی آف انڈیا اور وزیر حج کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے اور 2022 سے حج پرواز شروع کرنے کا اعلان کرنا چاہیے۔

از: رحمت اللہ مصباحی

نوٹ: یہ خبر ملک کے کثیر اردو اخبارات میں شائع ہو چکی ہے۔

فاضل بریلوی کی علمی خدمات ناقابل فراموش جامعہ اشرافیہ

میں مولانا مبارک حسین مصباحی کا خطاب

آج پوری دنیا میں امام احمد رضا محدث بریلوی کو یاد کر کے ان کی علمی اور قلمی خدمات کو سراہا جا رہا ہے۔ انھوں نے فتویٰ نویسی، تصنیف و کتب و رسائل، ترجمہ قرآن اور نعتیہ شاعری کی بدولت ارباب علم و تحقیق کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی ہے۔ انھوں نے جو علمی سرمایہ چھوڑا ہے وہ کیف و کم ہر دو اعتبار سے قابل قدر ہے۔ ان کی علمی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ ان کے فتاویٰ بارہ ضخیم جلدوں میں شائع ہوئے ہیں جس کی تحقیق و تدوین میں جامعہ اشرافیہ کے اساتذہ و علمائے مکتبہ اور کاوشیں شامل ہیں۔ حضور حافظ ملت کے دو شاگردوں نے اس علمی کام کو انجام دیا۔ اعلیٰ حضرت کے احوال و افکار پر تحقیق و ریسرچ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ان خیالات کا اظہار حضرت مولانا مبارک حسین مصباحی مدیر اعلیٰ ماہنامہ اشرافیہ نے جامعہ اشرافیہ مبارک پور اعظم گڑھ کے اسٹاف روم میں منعقد امام احمد رضا قادری کے عرس کی محفل میں کیا۔ پروگرام کا آغاز مولانا جنید احمد مصباحی استاد جامعہ اشرافیہ کی تلاوت قرآن پاک سے ہوا مولانا توفیق احسن برکاتی نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ قاری محمد رضا قادری اور مولانا ناظم علمی مصباحی نے قل شریف پڑھا اور حضرت مفتی زاہد علی سلامی کی دعا پر مجلس کا اختتام ہوا۔ اس موقع پر مولانا اختر حسین فیضی مولانا ساجد علی مصباحی، مولانا دستگیر عالم مصباحی، مولانا حبیب اختر مصباحی، مولانا عرفان عالم مصباحی، مفتی ناصر حسین مصباحی، مولانا اشرف رضا قادری، مولانا عبداللہ ازہری، مولانا حبیب اللہ ازہری، مولانا ارشاد احمد مصباحی،

امت محمدیہ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی حفظ کر لیتے ہیں۔" اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تعلیم اور اس کے تعلم کا یہ سلسلہ قائم و دائم رکھے، حافظ صہیب انیس کو قرآن کی برکت سے زندگی میں مزید کامیابی عطا فرمائے اور حافظ و قاری محمد اجمل قادری مصباحی کی خدمات کے دائرے کو وسیع سے وسیع تر فرمائے اور موصوف کو قرآن عظیم پڑھانے کی برکت سے دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔

از: محمد محبوب عزیزی

## دارالعلوم قادریہ، چریاکوٹ میں جشنِ اعلیٰ حضرت

### ویاد علامہ بدر القادری

25 صفر المظفر عرس اعلیٰ حضرت کی مناسبت سے دارالعلوم قادریہ چریاکوٹ ضلع منو میں حضرت علامہ محمد عبدالحمین نعمانی قادری، بانی رکن الجمع الاسلامی مبارک پور کی زیر صدارت ایک محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقرر خصوصی کے طور پر مولانا محمد عارف رضا نعمانی مصباحی ایڈیٹر پیام برکات علی گڑھ نے شرکت کی، تلاوت قرآن پاک سے محفل کا آغاز کیا گیا پھر طلبہ کے ذریعے نعت و منقبت کے نذرانے پیش کیے گئے، مولانا عارف نعمانی نے طلبہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اعلیٰ حضرت کی ذات علوم و معارف کی انسائیکلو پیڈیا ہے، آپ نے 10 شوال المکرم 1272 ہجری۔ مطابق 14 جون 1856ء کو ایک دینی اور علمی گھرانے میں آنکھ کھولی، آپ کے آبا و اجداد علم و فضل میں یتاے روزگار تھے، آپ نے اپنے والد گرامی مفتی نقی علی خاں علیہ الرحمۃ سے 14 برس کی عمر میں علم دین کی تکمیل کر لی تھی، اسی عمر سے فتویٰ دینا بھی شروع کر دیا تھا، عمر بھر اشاعت اسلام، تبلیغ دین، احقاق حق و ابطال باطل کا فریضہ انجام دیا، ناموس رسالت پر فتنہ انگیزیاں کی جارہی تھیں، آپ نے اپنی تحریر کے ذریعے اس کا جواب دیا، آپ فقہ و حدیث اور تفسیر کے امام تھے، آپ کا ترجمہ قرآن "کنز الایمان" عام و خاص میں مقبول ہے، ہم پر ضروری ہے کہ اپنے اس عظیم محسن کو یاد کریں اور اپنی نسلوں کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی کے بارے میں بتائیں۔

علامہ بدر القادری کی حیات و خدمات پر بھی روشنی ڈالی گئی، آپ 1969ء میں الجامعۃ الاشرافیہ مبارک پور سے فارغ ہوئے پھر کچھ عرصے بعد علم و عرفان کے مجمع جلانے ہالینڈ کی سرزمین پر تشریف لے گئے اور آخر تک وہیں لوگوں کو دین اسلام کی حقانیت سے روشناس کراتے ہوئے یکم صفر المظفر 1443ھ کو ہالینڈ میں وصال فرما گئے، ان

مولانا قاری محمد رضا قادری، مولانا محمد اسلم مصباحی، ماسٹر زبیر احمد برکاتی، ماسٹر تاجدار، کاتب تنویر احمد، ماسٹر نسیم احمد، ماسٹر محمد اسلم، ماسٹر انعام الحق سمیت جامعہ کے جید اساتذہ اور دیگر افراد موجود تھے۔

از: رحمت اللہ مصباحی

## جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں ایک نشست میں مکمل قرآن

خاتم النبیین ﷺ ہدایت کا جو آخری پیغام لے کر تشریف لائے وہ کتاب مبین قرآن مجید ہے، اس کا پڑھنا، اس کا یاد کرنا، اس کی تعلیم دینا اور اس پر عمل کرنا، ہر کام باعث برکت اور حامل فضیلت ہے۔ فرمان رسالت ہے: جس نے قرآن پڑھا اور اسے حفظ کیا، پھر اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام جانا تو اللہ تعالیٰ قرآن کے سبب اسے جنت میں داخل فرمائے گا اور اس کے گھر کے ایسے دس افراد کے حق میں اس کی شفاعت قبول فرمائے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ (ترمذی) پھر قرآن سیکھنے کے بعد محنت و جانفشانی اور قلبی وابستگی کے ساتھ اس کی تعلیم دینا سعادت مندی کا ایک اور عظیم منصب ہے۔ توفیق الہی سے جو اس پر فائز کیا جائے وہ شخص خیر کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ "تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔" (بخاری)

کتاب ہدایت سے نور حاصل کرنے کا یہ سلسلہ خیر القرون سے آج تک جاری ہے اور تدبیر الہی سے تاقیامت جاری رہے گا۔ اسی سنہرے سلسلے کی ایک کڑی جامعہ اشرفیہ مبارک پور کا شعبہ حفظ ہے، جہاں محلہ کٹرہ (مبارک پور) کے رہنے والے صہیب انیس ولد انیس الرحمن نے 13 سال کی عمر میں قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا اور رحمانی نعمتوں کا مزید فیضان یہ کہ موصوف نے پورا قرآن مجید ایک نشست میں سنایا، قرآن کی تعلیم دے کر خیر حاصل کرنے کا شرف رب العالمین کی بارگاہ سے حافظ و قاری محمد اجمل قادری مصباحی کو عطا ہوا۔ 17 اکتوبر 2021 کو حفظ قرآن اور تکمیل سماع کے مبارک موقع پر اعزازی تقریب کا انعقاد ہوا، والدین اور احباب نے دعاؤں سے نوازا اور اس ہونہار بچے کی گل پوشی کر کے حوصلہ افزائی کی۔ اس موقع پر منعقد تقریب کو خطاب کرتے ہوئے حافظ صہیب انیس جیسے درجنوں شاگردوں کے استاد، جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں شعبہ حفظ کے جید مدرس حضرت قاری محمد اجمل قادری مصباحی نے کہا کہ "قرآن کریم کلام الہی ہے، حفظ قرآن کی بے شمار فضیلتیں ہیں، دیگر آسمانی کتابوں کے حافظ صرف انبیاء کرام ہوتے تھے، یہ قرآن پاک کا انجاز ہے کہ اسے



نے فرمائی، مہمان خصوصی کی حیثیت سے خیرالاذ کیا حضرت علامہ محمد احمد مصباحی ناظم تعلیمات جامعہ اشرفیہ مبارک پور، محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدین رضوی، شیخ الحدیث و صدر شعبہ افتا جامعہ اشرفیہ مبارک پور، مولانا مسعود احمد برکاتی مصباحی، مولانا نفیس احمد مصباحی، مولانا صدر البوری قادری مصباحی اساتذہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور، مولانا ساجد رضا مصباحی استاذ دارالعلوم غریب نواز داہوگج، کشی نگر مولانا غلام محبوب سبحانی ازہری، مولانا احکام علی چشتی مصباحی، مولانا آفتاب عالم صدیقی اساتذہ جامعہ صدیہ پھونڈ شریف نے شرکت فرمائی۔

ان نشستوں میں کافی غور و خوض اور باہمی تبادلہ خیال کے بعد عصری تعلیم یافتہ مسلم بچیوں کو دین سے قریب کرنے کے لیے دو سالہ ”اسلامیات کورس“ کا نصاب تعلیم ترتیب تیار کیا گیا، جس میں عقائد، عبادات، معاملات اور آداب زندگی سے متعلق مواد خاص طور پر شامل کیا گیا ہے، اس دو سالہ کورس کے ذریعہ بچیوں کو اسلامی اصول و آداب کی روشنی میں زندگی گزارنے کے ساتھ اسلام کے بنیادی عقائد سے روشناس کرایا جائے گا اور ان کے عقیدہ و عمل کی حفاظت کے لیے تربیت دی جائے گی۔

شکر کے نشست نے کئی نشستوں میں بڑی گہرائی سے حالات کا جائزہ لینے کے بعد ابتدائی مرحلے میں اسلامی نونہالوں کے لیے پانچ سالہ ”اسلامیات کورس“ کا نصاب تعلیم و تربیت تیار کیا، جس میں اعتقادات کے ساتھ عبادات، معاملات اور اخلاق و آداب پر خصوصی توجہ دی گئی ہے، اس پانچ سالہ کورس کی کتابیں تحریک دعوت انسانیت کی مجلس علماء کے زیر اہتمام تیار ہوں گی، جس کے لیے چھ مہینے کا وقت مقرر کیا گیا ہے، کتابوں کی تیاری کے بعد خوب صورت رنگ و آہنگ میں یہ کتابیں شائع ہوں گی۔ پھر اس کے بعد اگلے پانچ سال کا نصاب تعلیم و تربیت تیار کیا جائے گا۔ بانی تحریک دعوت انسانیت مفتی محمد انفاس الحسن چشتی دام ظلہ اتر پردیش کے کثیر اضلاع میں مکاتب کے قیام کے لیے جدوجہد فرما رہے ہیں، بعض مقامات پر یہ مکاتب قائم بھی ہو چکے ہیں۔

تحریک دعوت انسانیت کے زیر اہتمام منعقد ان نشستوں کے انتظام و انصرام میں صاحب عالم، فخر عالم، ماسٹر شاداب، عرفان چشتی وغیرہ نے خصوصی کردار ادا کیا۔ علما و دانشوران نے تحریک دعوت انسانیت کے بانی اور اس کے جملہ ارکان و کارکنان کو اس اہم اقدام پر مبارک باد دی اور خصوصی دعاؤں سے نوازا۔

از شعبہ نشر و اشاعت تحریک دعوت انسانیت ڈیرہ پور کان پور دیہات

کے آبائی وطن گھوسی ضلع منو میں تدریس عمل میں آئی، حضرت موصوف کی دارالعلوم قادریہ سے قدیم وابستگی تھی۔

اس پروگرام میں ادارے کے پرنسپل مولانا حافظ عبدالسلام قادری، مولانا عمران قادری، مولانا انور علی مصباحی، ماسٹر نسیم احمد، ماسٹر لخوا احمد، ماسٹر عبدالمقیت جملہ اساتذہ اور طلبہ شریک رہے، صلاۃ و سلام اور مولانا عرف رضا نعمانی کی دعا پر محفل کا اختتام پر ہوا۔

اسی طرح جامع مسجد غوثیہ محلہ مسجد آباد چریا کوٹ منو یوم رضا کی مناسبت سے ایک محفل کا انعقاد کیا گیا، قاری محمد سلطان کی تلاوت سے محفل کا آغاز ہوا پھر مولانا اختر الاسلام قادری نے نعت و منقبت پیش کی، پھر پیر طریقت محمد عبدالہمین نعمانی قادری نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے بڑا جو کام کیا وہ ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کا ہے آپ کی ذات علم کا سمندر تھی، آپ کے فتاویٰ ترجمے کے ساتھ 33 جلدوں پر مشتمل ہیں، ساتھ ہی علامہ بدر القادری صاحب کے بارے میں فرمایا کہ انھوں نے چالیس سالوں سے زیادہ عرصہ دیار مغرب میں گزارا، وہاں لوگوں کو مذہب اسلام اور مسلک حق اہل سنت و جماعت سے وابستہ رہنے میں بھرپور جدوجہد کی، کئی تصانیف یادگار ہیں، جن میں بزم اولیاء، اسلام اور امن عالم، خمینی مذہب، ہندوستان اور مسلمان، حیات حافظ ملت، تربیت اولاد، تذکرہ غازی، سنت کی آئینی حیثیت وغیرہ، قابل ذکر ہیں، مفتی عبدالہمین نعمانی قادری کی دعا پر محفل کا اختتام ہوا۔

از: مولانا عمران رضا قادری،

استاذ دارالعلوم قادریہ چریا کوٹ

## تحریک دعوت انسانیت کا اہم اقدام

تحریک دعوت انسانیت ڈیرہ پور کان پور دیہات کے زیر اہتمام جاج منو شہر کان پور میں دوسری بار سہ روزہ علمی نشست کا انعقاد مورخہ یکم اکتوبر 2021ء تا 3 اکتوبر 2021ء جمعہ تا یک شنبہ منعقد ہوئی، اس سے قبل مورخہ 10 ستمبر 2021ء بروز جمعرات و جمعہ بھی یہ نشست منعقد ہوئی تھی ان تعلیمی نشستوں کا مقصد نئی نسل کی اسلامیات سے دوری اور اسلامی بچیوں کی بے راہ روی کے اسباب پر غور و خوض اور اس کے تدارک کے لیے موثر اور مضبوط لائحہ عمل تیار کرنا تھا۔ ان تمام نشستوں کی قیادت بانی تحریک دعوت انسانیت علامہ مفتی محمد انفاس الحسن چشتی شیخ الحدیث و صدر المدر سین جامعہ صدیہ پھونڈ شریف اور سرپرستی حضرت علامہ الہین اختر مصباحی دارالقلم دہلی

R.N.I. No. 29292/76  
Regd. No. AZM/N.P.2

December 2021

# THE ASHRAFIA MONTHLY

الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور

Mubarakpur Azamgarh (U.P.) 276404 (INDIA)

اہل سنت و جماعت میں محتاج تعارف نہیں، اس کی دینی، علمی اور تعلیمی خدمات ہر طرف روشن ہیں، تعلیمی اور تعمیری امور سے متعلق بے پناہ ضرورتیں سامنے ہیں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سب ذیل ذرائع سے اپنی رقموں ارسال فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب ﷺ کے طفیل آپ کو دارین کی سعادتوں سے سرفراز فرمائے۔ آمین بجاہ حبیبہ سید المرسلین

عبدالحمید عفی عنہ

سربراہ اعلیٰ

الجامعۃ الاشرفیہ، مبارک پور، ضلع اعظم گڑھ (یوپی)

(Tel.) - 05462-250092 (Mob. No.) 9450109981 Mahnama Ashrafia: 05462-250149

Fax No. 05462-251448 (Mumbai Office) 022-23726122

(Delhi Office) Tel. 011-23268459, Mob.No. 9911198459

www.aljamiatulashrafia.org Email: info@aljamiatulashrafia.org

(For Education)

(For Construction)

(1) Darul Uloom Ahle Sunnat  
Madrasa Ashrafia Misbahul Uloom  
**Central Bank of India**  
A/C 3610796165  
IFSC. Code: CBIN 0284532

(1) Aljamiatul Ashrafia  
**Central Bank of India**  
A/c 3610803301  
IFSC. Code: CBIN 0284532

(2) Darul Uloom Ahle Sunnat  
Madrasa Ashrafia Misbahul Uloom  
**Union Bank of India**  
A/C 30300101033366  
IFSC. Code: UBIN 0530301  
Branch Code: 530301

(2) Aljamiatul Ashrafia  
**Union Bank of India**  
A/c 303002010021744  
IFSC. Code: UBIN 0530301  
Branch Code: 530301

(3) Darul Uloom Ahle Sunnat  
Madrasa Ashrafia Misbahul Uloom  
**Punjab National Bank**  
A/c 05752010021920  
IFSC. Code : PUNB0057510

(3) Aljamiatul Ashrafia  
**Punjab National Bank**  
A/c 05752010021910  
IFSC. Code : PUNB0057510

**UPI**

BHIM UPI Payments Accepted at  
Darul Uloom Ahle Sunnat Madrasa Ashrafia Misbahul Uloom



Account Number : 3610796165, IFSC Code: CBIN0284532

Scan and Pay using any UPI supported Apps

- (1)- Exempted u/s 80G, (5) (VI), of Income Tax Act. 1961, Vide File No. Aa.Ayukt/Gkp/80G, Redg. S.No. 178/2011-12 Dt. 30/8/2011 w.e.f A.Y 2012-13 (F.Y.2011-12)  
(2)- Exempted u/s 12A, Vide Letter No. 177/2011-12

**Only for Foreign Countries. FCRA Registration. No.236250051 Nature: Educational Social. For Account Detail, please visit <http://aljamiatulashrafia.in/donation.php?lang=EN>**

**اشرفیہ کلینڈر 2022**

حاصل کرنے کے لیے رابطہ کریں

منیجر ماہ نامہ اشرفیہ، مبارک پور، اعظم گڑھ

موبائل نمبر: 9935162520

